

[AS] INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY

A
BILL

To provide for the establishment of Institute of Management & Technology (IMT) and to provide for matters connected therewith and ancillary thereto;

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of *Institute of Management & Technology (IMT)*, and to provide for matters connected therewith and ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows: -

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent, and commencement.

(1) This Act shall be called the Institute of Management & Technology (IMT)

Act, 2023
of shall
(2) extends to the whole of Pakistan.

(3) shall come into force at once.

2. Definitions. ----- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

- (i) "Academic Council" means the Academic Council of the Institute;
- (ii) "Authority" means any of the Authorities of the Institute specified or set up in terms of section 20;
- (iii) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Institute;
- (iv) "Chancellor" means the Chancellor of the Institute;
- (v) "Trust" means Advance Education Trust (AET) registered in 2010 under the society's act 1860, Ref. No. RP/5854/L/S/10/1046, dated: 22/06/2010.
- (vi) "Commission" means the Higher Education Commission set up under the Higher Education Commission Ordinance, 2002 (Loll of 2002);
- (vii) "(Constituent College" means an educational institution, by whatever name described, maintained and administered by the Institute;
- (viii) "Dean" means the head of a Faculty or the head of an academic body granted the status of a Faculty by this Act or by the Statutes or Regulations;
- (ix) "Department" means a teaching department maintained and administered or recognized by the Institute in the manner prescribed;

- (x) "Director" means the head of an institute established as a constituent institution by the Institute by Statutes or Regulations in terms of the powers delegated by this Act.
- (xi) "Faculty" means an administrative and academic unit of the Institute consisting of one or more schools, as prescribed:
- (xii) "Government" means the Federal Government;
- (xiii) "Institute" means the Institute of Management & Technology (IMT)
- (xiv) "Institute Teacher" means a whole-time teacher appointed and paid by the Institute, or recognized by the Institute as such:
- (xv) "Patron" means the Patron of the Institute;
- (xvi) "Prescribed" means prescribed by Statutes, Regulations or Rules made under this Act:
- (xvii) "Principal" means the head of a constituent unit/college;
- (xviii) "Representation Committee" means the Representation Committees constituted under section 25:
- (xix) "Review Panel" means the Review Panel Set up by the Chancellor in accordance with the provisions of this Act;
- (xx) "Search Committee" means the Search Committee set up by the Board of Governors under this Act;
- (xxi) "Schedule" means a Schedule to this Act;
- (xxii) "Statutes, Regulations and Rule" mean the statutes, Regulations and Rules made under this Act and for the time being in force;
- (xxiii) "Syndicate" means the Syndicate of the Institute;
- (xxiv) "Teachers" include Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and lecturers engaged whole-time by the Institute or by a constituent and such other persons as may be declared to be teachers by Regulations: and
"Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the Institute.

CHATTER II
THE INSTITUTE

3. Establishment and incorporation of the Institute. - (1) there shall be established an at Lahore an institute to be called the Institute of Management & Technology (IMT)

(2) The Institute shall consist of the following, namely; -

- (a) The Patron, the Chancellor, the members of the Board of Governors, Syndicate, and the Vice-Chancellor;
- (b) the members of the authorities of the Institute established under section 17;
- (c) all Institute Teachers and persons recognized / students of the Institute in accordance with terms prescribed from time to time; and
- (d) All other full-time officers and members of the staff of the Institute.

(3) The Institute shall be a body corporate by such name as may be notified And shall have perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued By the said name:

(4) The Institute shall be competent to acquire and hold property, both moveable and immovable, and to lease, sell or otherwise transfer any movable and immovable property which may have become vested in or been acquired by it.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the institute shall have academic, financial and administrative autonomy, including the power to employ officers, teachers and other employees on such terms as may be prescribed, subject to the terms of this Act and the Higher Education Commission Act, 2002 (Loll of 2002). In particular, and without prejudice to the authority granted to the Commission by the law, the Government or an authority or auditor appointed by the Government shall have no power to question the policy underlying the allocation of resources approved by the Board of Governors in the annual budget of the Institute.

4. Powers and functions of the Institute. ----- The Institute shall have the following powers, namely, -

- (i) to provide for education and scholarship in such branches of knowledge as it may deem fit, and to make provision for research, service to society and for the application, advancement and dissemination of knowledge in such manner as it may determine;

- (ii) to prescribe courses of studies, to be conducted by it and the constituent colleges/units;
- (iii) to hold examinations and to award and confer degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to and on persons who have been admitted to and have passed its examinations under prescribed conditions:
- (iv) to prescribe the terms and conditions of employment of the officers, teacher and other employees of the Institute and to lay down terms and conditions that may be different from those applicable to government servants in general;
- (v) to engage, where necessary, persons on contracts of specified duration and to specify the terms of each engagement:
- (vi) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons in the manner prescribed;
- (vii) to provide for such instruction for persons not being students of the Institute as it may prescribe, and to grant certificates and diploma to such persons;
- (viii) to institute programmers for the exchange of students and teachers between the Institute and other institutes, universities, educational institutions and research organizations, inside as well as outside Pakistan;
- (ix) to provide career counseling and job search services to students and alumni:
- (x) to maintain linkages with alumni;
- (xi) to develop and implement fund-raising plans:
- (xii) to provide and support the academic development of the faculty of the Institute;
- (xiii) to confer degrees on persons who have carried on independent research under prescribed conditions:
- (xiv) to accept the examinations passed and the period of study spent by students of the Institute at other universities and places of learning equivalent to such examinations and periods of study in the Institute, as it may prescribe, and to withdraw such acceptance;
- (xv) to co-operate with other Universities, public authorities or private organizations, inside as well as outside Pakistan, in such manner and for such purposes as it may prescribe;
- (xvi) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorship, and Lectureships and any other posts and to appoint persons thereto;
- (xvii) to create posts for research, extension, administration and other related purposes and to appoint persons thereto;

- (xviii) to recognize selected members of the teaching staff of colleges or educational institutions admitted to the privileges of the Institute or such other persons as it may deem fit, as Institute Teachers,
- (xix) to institute and award financial assistance to students in need, fellowships, Scholarships, bursaries, medals and prizes under prescribed conditions:
- (xx) To establish teaching constituent colleges, departments. Faculties, institutes, museums and other centers of learning for the development of teaching and research, professional and technical training and special studies and to make such arrangements for their maintenance. management and administration as it may prescribe;
- (xxi) To provide for the residence of the students of the Institute and the constituent unit5. to Institute and maintain halls of residence and to approve or license hostels and lodging:
- (xxii) to maintain order, discipline and security on the campuses of the Institute and the constituent units;
- (xxiii) to promote the extra-curricular and recreational activities of such students, and to make arrangements for promoting their health and general welfare:
- (xxiv) to demand and receive such fees and other charges as it may determine;
- (xxv) to make provision for research, advisory or consultancy services and with these objects to enter into arrangements with other institutions, public or private bodies, commercial and industrial enterprises under prescribed conditions;
- (xxvi) to enter into, carry out, vary or cancel contracts:
- (xxvii) to receive and manage property transferred and grants, contributions made to the Institute and to invest any fund representing such property, grants, bequests, trusts, gifts, donations, endowments or contributions in such manner as it may deem fit;
- (xxviii) to provide for the printing and publication of research and other works: and
- (xxix) To do all such other acts as may be requisite or expedient for furtherance of objectives of the Institute as a center of education, learning, research, professional and technical training, special studies, and for safeguarding tangible and intangible cultural heritage.

5. Institute open to all classes, creeds, etc. ----- (1) the Institute shall be open to all persons of any gender and of whatever religion, race, creed, class. Color or domicile and no person shall be denied privileges of the Institute on these grounds.

(2) An increase in any fee or charge that is in excess of ten percent per annum on an annualized basis from the last such increase may not be made except in special circumstances, and only with the approval of the Chancellor.

(3) The Institute shall institute financial aid programmers for students in need, to the extent considered feasible by the Board of Governors given the resources available, so as to enable admission and access to the Institute and the various opportunities provided by it to be based on merit rather than ability to pay.

6. Teaching at the Institute, ----- (1) All recognized teaching, professional and technical training in various courses shall be conducted by the Institute or the schools in the prescribed manner and may include lectures, tutorials, discussions, seminars, demonstration5, distance learning and other methods of instruction as well as practical work in the laboratories, hospitals, workshops and other governmental or private organizations subject to policies prescribed by the Commission.

(2) The Institute may Jet up any number of campuses, at such places in Pakistan or abroad as the Board of Governors may determine and with prior approval of Higher Education Commission.

(3) The authority responsible for organizing recognized teaching shall be such as may be prescribed.

CHAPTER III

OFFICERS OF THE INSTITUTE

7. Principal Officers. ----- The following shall be the principal officers of the Institute, namely;-

- (a) the Patron;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-chancellor;
- (d) the Pro Vice Chancellor;
- (e) the Deans;
- (f) the Principals of the constituent colleges/units;

- (g) the Chairpersons of the teaching departments;
- (h) the Registrar;
- (i) the Treasurer;
- (j) the Controller of Examinations; and
- (k) Such other persons as may be prescribed by the Statutes or Regulations to be the principal officers of the Institute.

8. Patron. - (1) The President of Islamic Republic of Pakistan shall be the Patron of the Institute.

- (2) The Patron shall, when present, preside at the convocation of the Institute. In the absence of the Patron, the Chancellor shall preside over the convocation of the Institute.
- (3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to confirmation by the Patron.

9. Visitation. - (1) The Patron may, in accordance with the terms and procedures as may be prescribed, cause an inspection or inquiry to be made on his own motion or at the request of the Commission in respect of any matter connected with the affair; of the Institute and shall, from time to time, direct any person or persons to inquire into or carry out inspection of-

- (a) the Institute, its building, laboratories, libraries, and other facilities,
 - (b) any Institution, department or hostel maintained by the Institute;
 - (c) the adequacy of financial and human resources;
 - (d) The teaching, research, curriculum, examination, and other matters of the Institute, and
 - (e) such other matters as the Patron may specify,
- (2) The Patron shall communicate to the Board of Governors his views with regard to the result of visitation and shall, after ascertaining the views of the Board of Governors, advise the Chancellor on the action to be taken by it,
 - (3) The Chancellor shall, within such time as may be specified by the Patron, communicate to him such action, if any, as has been taken or may be proposed to be taken upon the results of visitation.
 - (4) Where the Board of Governors does not, within the time specified, take action to the satisfaction of the Patron, the Patron may issue such directions as he/she deems fit and Board of Governors shall comply with all such directions

10. Chancellor. ----- (1) The Chairperson of the Board of Directors of Institute of Management & Technology (IMT) shall be Chancellor of the Institute.

(2) The members of the Board of Governors as well as the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons recommended by the Representation Committee set up for this purpose or the Search Committee, respectively established in accordance with this Act and the Statutes, as the case may be, along with those elected.

(3) If the Chancellor is satisfied that serious irregularity or mismanagement with respect to the affairs of the Institute has occurred, he may:-

(a) as regards proceedings of the Board of Governors, direct that specified proceedings be reconsidered, and appropriate action taken within one month of the direction having been issued:

Provided that If the Chancellor is satisfied that either no reconsideration has been carried out or that the reconsideration has failed to address the concern expressed, he may, after calling upon the Board of Governors to show cause in writing, appoint a five-member Review Panel to examine and report to the Chancellor on the functioning of the Board of Governors. The Review Panel shall be drawn from persons of eminence in academics and in the fields of law, accountancy and administration and the report of the Review Panel shall be submitted within such time as may be specified by the Chancellor; and

(b) As regards proceedings of any Authority or with respect to matters within the competence of any Authority other than the Board of Governors, direct the Board of Governors to exercise powers under section 24.

11. Removal from the Board of Governors, ----- (1) The Chancellor may, upon the recommendation of the Review Panel, remove any person from the membership of the Board of Governors on the ground that such person:

(a) Has become of unsound mind; or

(b) Has become incapacitated to function as member of the Board of Governors or

- (c) Has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude: or
- (d) Has absented himself from two consecutive meetings Without just cause; or
- (e) Has been guilty of misconduct, including use of position for personal advantage of any kind. Or gross inefficiency in the Performance of functions.

- (2) The Chancellor shall remove any person from the membership of the Board of Governors on a resolution calling for the removal of such person Supported by at least three-fourths of the membership of the Board of Governors:

Provided that before passing such resolution the Board of Governors shall provide the member concerned a fair hearing:

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable to the Vice-Chancellor in his capacity as a member of the Board of Governors.

12. Vice-Chancellor. - (1) There shall be a Vice-Chancellor of the Institute who shall be an eminent academician or a distinguished administrator and shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed.

- (2) The Vice-Chancellor shall be the chief executive officer of the Institute responsible for all administrative and academic functions of the Institute and for ensuring that the provisions of this Act, Statute, Regulations and Rules are faithfully observed to promote the general efficiency and good order of the Institute. The Vice-Chancellor shall have all powers prescribed for this purpose, including administrative control over the officers, teachers, and other employees of the Institute.
- (3) The Vice-Chancellor shall, if present, be entitled to attend any meeting of any Authority or body of the Institute.
- (4) The Vice-Chancellor, in an emergency requiring immediate action ordinarily not in the competence of the Vice-Chancellor, may take, such action and forward, within seventy-two hours, a report of the action taken to the members of the emergency Committee of the Board of Governors. to be set up by Statute. The emergency Committee may direct such further action as is considered appropriate.

- (5) The Vice-Chancellor shall also have the followings powers, namely:-
- (a) to direct teachers, officers and other employees of the Institute to take up such assignments in connection with examination, administration and such other activities in the Institute at him may consider necessary for the purpose of the Institute;
 - (b) to sanction by re-appropriation an amount not exceeding an amount specified by the Board of Governors for an unforeseen item not provided for in the budget and report it to the Board of Governors at the next meeting;
 - (c) to make appointments of such categories of employees of the Institute and in such manner as may be prescribed by the statute;
 - (d) To suspend, punish and remove, in accordance with prescribed procedure, from service officers, teacher and other employees of the Institute except those appointed by or with the approval of the Board of governors;
 - (e) to delegate, subject to such condition as may be prescribed, any of his powers under this Act to an officer or officers of the Institute; and
 - (d) To exercise and perform such other powers and functions as may be prescribed.
- (6) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the Institute in the absence of the Chancellor.
- (7) The Vice-Chancellor shall present an annual report before the Board of Governors within three months of the close of the academic year. The annual report shall present such information as regards the academic year under review as may be prescribed, including disclosure of all relevant facts pertaining to-
- (a) Academics;
 - (b) Research;
 - (c) Administration; and
 - (d) Finances.
- (8) The Vice-Chancellor's annual report shall be made available, prior to its representation before the Board of Governors, to all officers and Institute teachers and shall be published in such numbers as are required to ensure its wide circulation.

13. Appointment and removal of the Vice Chancellor. - (1) the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the basis recommendations made by the Board of Governors.

(2) A Search Committee for the recommendation of persons suitable for appointment as Vice Chancellor shall be constituted by the Board of Governors on the date and in the manner prescribed by the Statutes and shall consist of two eminent members of society nominated by the Chancellor, of whom one shall be appointed the Convener, two members of the Board of Governors, two distinguished Institute Teachers who are not members of the Board of Governors and one academician of eminence not employed by the Institute. The two distinguished Institute Teachers shall be selected by the Board of Governors through a process to be prescribed by Statute that provides for the recommendation of Suitable names by the Institute Teachers in general. The Search Committee shall remain in existence till the time of appointment of the next Vice-Chancellor made by the Chancellor.

(3) The persons proposed by the Search Committee for appointment as Vice-Chancellor shall be considered by the Board of Governors and a panel of three, in order of priority, shall be recommended by the Board of Governors to the Chancellor:

Provided that the Chancellor may decline to appoint any of the three persons recommended and seek recommendation of a fresh panel. In the event of a fresh recommendation being sought by the Chancellor, the Search Committee shall make a proposal to the Board of Governors in the prescribed manner.

(4) The Vice-Chancellor shall be appointed for a renewable tenure of four years on terms and conditions prescribed by Statutes. The tenure of an incumbent Vice-Chancellor shall be renewed by the Chancellor on receipt of a resolution of the Board of Governors in Support of such renewal:

Provided that the Chancellor may call upon the Board of Governors to reconsider such resolution once.

(5) The Board of Governors may, pursuant to a resolution in this behalf passed by three-fourth of its membership, recommend to the Chancellor the removal of the Vice-Chancellor on the ground of inefficiency, moral turpitude or physical or mental incapacity or gross misconduct, including misuse of position for personal advantage of any kind:

Provided that the Chancellor may make a reference to the Board of Governors stating the instances of inefficiency, moral turpitude or physical or mental incapacity or gross misconduct on the part of the Vice Chancellor that have come to his notice. After consideration of the reference the Board of Governors may, pursuant to a resolution in this behalf passed by two-thirds of its membership, recommend to the Chancellor the removal of the Vice-Chancellor:

Provided further that prior to a resolution for the removal of the Vice-Chancellor being voted upon the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

(6) A resolution recommending the removal of the Vice-Chancellor shall be submitted to the Chancellor forthwith. The Chancellor may accept the recommendation and order removal of the Vice Chancellor or return the recommendation to the Board of Governor.

(7) At any time when the office of the Vice-Chancellor is vacant, or the Vice-Chancellor is absent or is unable to perform the functions of his office due to illness or some other causes, the Board of governor shall make such arrangements for the performance of the duties of the Vice-Chancellor as it may deem felt.

14. Registrar. (1) There shall be a Registrar of the Institute to be appointed by the Board of Governor on the recommendation of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The experience as well as the professional and academic qualification necessary for appointment to the post of the Registrar shall be as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be a full-time officer of the Institute and shall,-

(a) Be the administrative head of the secretariat of the Institute and be responsible for the provision of secretariat Support to the Authority of the Institute:

(b) Be the custodian of the common ideal and the academic Records of the Institute:

(c) Maintain a register of registered graduates in the prescribed manner;

(d) Supervise the process of election, appointment or nomination of members to the various authority and other bodies in the prescribed manner and

- (e) Perform such other duties as may be prescribed.
- (4) The term of office of the Registrar shall be a renewable period of provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice-Chancellor, terminate the appointment of the Registrar on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

15. Treasurer. - (1) There shall be a Treasurer of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed,

- (2) The experience and the professional and academic qualifications necessary for appointment to the post of the Treasurer shall be as may be prescribed.
- (3) The Treasurer shall be the chief financial officer of the Institute and Shall,
 - (a) Manage the assets, liabilities. Receipts, expenditures. Funds and Investments of the Institute;
 - (b) Prepare the annual and revised budget estimates of the Institute and present them to the Syndicate or a committee thereof for approval and incorporation in the budget to be presented to The Board of Governors;
 - (c) Injured that the funds of the Institute are expended on the purposes for which they are provided;
 - (d) Have the account of the Institute audited annually to be available for submission to the Board of Governors within six months of the close of the financial year, and
 - (e) Perform such other duties, as may be prescribed.

(4) The term of office of the Treasurer shall be a renewable period of three years: Provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice-Chancellor, terminate the appointment of the Treasurer on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

16. Controller of Examinations.- (1) There shall be a Controller of Examinations, to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed.

- (2) The minimum qualifications necessary for appointment to the post of the Controller of Examinations shall be as may be prescribed.

(3) The Controller of Examinations shall be a full-time officer of the Institute and shall be responsible for all matters connected with the conduct of examination and perform such other duty as may be prescribed.

(4) The Controller of Examinations shall be appointed for a renewable term of three years:

Provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice-Chancellor, terminate the appointment of the Controller of Examination, on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

17. Director Planning and Development. (1) There shall be a Director Planning & Development of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Syndicate for a period of three years (Once renewable) on such terms & conditions as may be prescribed.

(2) The minimum experience as well as the professional and academic Qualifications necessary for the appointment to the post of Director Planning & Development shall be prescribed.

(3) The Director Planning & Development shall be responsible for all matters connected with planning and development and perform such other duties as may be prescribed.

(4) The Director Planning & Development shall;

(i) Prepare short- and long-term plans and development programs to meet vision, goals and priorities set by the Institute management/Board of Governors

(ii) Conduct comprehensive review, assessment, and analysis of development planning process (project identification, appraisal, selection, implementation, and monitoring) and mechanism:

(iii) Develop a strategy for improving development planning processes and mechanism based on findings of the situation analysis;

(iv) provide technical support in developing project proposals and PCs-I, for the Institute;

(v) Preparation of the PC-1, PC-II, PC-III, PC-IV, and PC-V; (vi)

(vi) preparation of cash work and activity plan;

(vii) Preparation of quarterly expenditure Statement;

- (viii) Preparation of monthly and quarterly progress reports;
 - (ix) To coordinate with works, purchase, store units and accounts;
 - (x) To communicate/submit reports, plans and project to different donor.
- (5) The Board of Governors may on the recommendations/advice of Syndicate, terminate the service of Director Planning and Development on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

18. Director Quality Enhancement Cell (QEC). - (1) There shall be a Director Quality Enhancement Cell (QEC) of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of Syndicate for a renewable period Of three years on such terms & conditions as may be prescribed.

- (2) The minimum experience as well! As the professional and academic qualifications necessary for the appointment to the post of Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be as may be prescribed.
- (3) The Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be responsible to:
 - (i) Review the quality standard and the quality of teaching and Learning in each Subject area;
 - (ii) Review the academic association with other institutions in terms of effective management of standards and quality of programs;
 - (iii) defining clear and explicit standards as points of reference to the review to be carried out. Let should also help the employees to know as to what they could expect from candidates;
 - (iv) Developing qualifications framework by settings out the attributes and abilities that can be expected from the holder of a qualification, i-e. Undergraduate and graduate programs;
 - (v) Developing program specifications. These are standards set of information clarifying what knowledge, understanding, skill and other attributes a student will have developed on successfully completing a specific program:
 - (vi) Developing quality assurance processes and methods of evaluation to affirm that the quality of provision and the standard of awards are being maintained and to foster curriculum, subject and staff development together with research and other Scholarly activities;

- (vii) Ensure that the Institute quality assurance procedures are designed to fit in with the arrangements in place nationally and internationally for maintaining and improving the quality of Higher Education;
- (viii) Developing procedures and processes, monitoring & evaluation systems and standard for the followings:
 - (a) The Approval of new programs
 - (b) Annual monitoring and evaluation including program Monitoring, faculty monitoring and student perception
 - (c) Departmental review
 - (d) Student feedback
 - (e) Employer feedback
 - (f) Quality assurance of undergraduate, graduate & doctoral Programs
 - (g) Institutional assessment and performance evaluation
 - (h) Program specifications
 - (i) Qualification framework
- (ix) Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be the member of all statutory bodies/committees of the Institute.
- (4) The Board of Governors may on the recommendations or advice of Syndicate, terminate the services of Director Quality Enhancement Cell (QEC) on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

19. Director of Office of Research, innovation and Commercialization (ORIC);- -

- (1) There shall be a Director (ORIC) of the Institute to be appointed by Board of Governors on the recommendation of Syndicate for a renewable Period of three years on such terms and conditions as may be prescribed.
- (2) The minimum experience as well as the professional and academic Qualification necessary for the appointment to the post of Director (ORIC) shall be as may be prescribed,
- (3) The Director (ORIC) shall:-
 - (i) Manage and enhance the research activities of the Institute, develop research policies and priorities, work for fund raising for research; mobilize faculty, business community and industry For research commercialization and serve as an effective Advocate for research

with the university, Institute and to its broader community of stakeholders and supporters

- (ii) to supervise all aspects of the operation of the Office for research including research administration (budgeting, auditing, accounting, human resources, management & maintenance of facilities and equipment, implementation of research contracts and human resources);
 - (iii) to develop programs and activities that will increase funding for research from all public and private sources, establish and maintain excellent relationship with donors and *private source, oversee proposals development and submission
 - (iv) To promote the development of public-private partnership! In support of Institute research, link the Institute research Community with the needs and priorities of the corporate sector, Develop opportunities for applied research and explore opportunities for technology transfer and commercialization of Institute research (including incubators and research parks).
 - (v) Be responsible to monetize royalty stream, from licenses collaborate with the principal liaison for technical marking and incensing on the commercialization of the Institute'JIP in coordination with other relevant department and offices,
 - (vi) work in close liaison with the office of research and development. Planning and development. And institute's Technology Park.
- (4) The Board of Governor may on the recommendations/advice of Syndicate. Terminate the services of Director (ORIC) on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

CHAPTER IV

AUTHORITIES OF THE INSTITUTE

20. Authorities. – (1) The following shall be the Authorities of the institute, namely. –

- (a) Authorities established by this Act. ----
 - i. the Board of Governors
 - ii. the syndicate; and
 - iii. the Academic Council

- (b) Authorities to be established by the Statutes. ----
- i. Board of Advanced Studies and Research;
 - ii. Board of Studies;
 - iii. Selection Board;
 - iv. Finance and Planning Committee;
 - v. Search Committee for the appointment of the Vice-Chancellor;
 - vi. Representation Committees for appointment to be Board of Governors, Syndicate and Academic Council
 - vii. Quality Assurance Committee; and
 - viii. Discipline Committee;
- (2) The Board of Governor, the Syndicate and the Academic Council may set up such other committees or Sub-committees, by whatever name described, as are considered desirable through Statutes or Regulations. Such committees or sub-committee shall be Authorities, of the Institute for the purposes of this Act.

21. Board of Governors. -(I) the body responsible for the governance of the Institute shall be described as Board of Governors, and shall consist of the following, namely:-

- (a) The Chancellor who shall be the Chairperson of the Board of Governors;
- (b) The Vice-Chancellor;
- (c) The Pro Vice-Chancellor,
- (d) one member of the Government not below the rank of Additional Secretary from the concerned Ministry or any other department relevant to the special focus of the Institute;
- (e) four persons from society at large, preferably two or at least one Female being persons of distinction in the fields of administration, management, education, academics, law, accountancy, medicine, fine arts, architecture, agriculture, science, technology, industry, and engineering such that the appointment of these persons reflects a balance across the various fields;
- (f) one person from amongst the alumni of the Institute;
- (g) two persons from the academic community of the country, other than an employee of the Institute, at the level of professor or principal of a college;

- (h) Four Institute Teachers (One from each tier i.e. Professors, Associate Professor, Assistant Professor and Lecturer);
 - (i) One person nominated by Commission;
 - (j) Two persons nominated by the Institute of Management and Technology (IMT)
- (2) The numbers of the members of the Board of Governors specified against clauses (f) to (i) of sub-section (1) may be increased by the Board of Governors through Statute subject to condition that the total membership of the Board of governor does not exceed twenty-one, with a maximum of five Institutes teachers and the increase are balanced, to the extent possible, across the different categories Specified in sub-section (1).
- (3) All appointments to the Board of Governors shall be made by the Chancellor. Appointments of persons specified in clauses (f) to (g) of sub-section (1) shall be made from amongst a panel of three names for each vacancy recommended by the Representation Committee set up in term of section 28 and in accordance with procedure as may be prescribed.

Provided that effort shall be made, without compromises on quality or qualification, to save fair representation to women on the Board of Governors.

Provided further that as regard the Institute Teachers specified in clause (h) of sub-section (1) the Board of Governor shall prescribe a procedure for appointment on the basis of elections that provide for voting by the various categories of Institute Teachers. Provided also that the Board of Governors may alternatively prescribe that appointment of Institute Teachers to the Board of Governors shall also be in the manner provided by this sub-section for the persons specified in clauses (f) to (g) of sub-section (1).

- (4) Members of the Board of Governors, other than ex officio members. Shall hold office for three years. One-third of the members, other than ex officio Members, of the First Board of Governors, to be determined by lot, shall retire from office on the expiration of one year from the date of appointment by the Chancellor. One half of the remaining members, other than ex official members, of the First Board of Governor, to be determined by lot, shall retire from office on the expiration of two year from the date of appointment and the remaining one-half other than ex officio members, shall retire from office on the expiration of the third year.

Provided that no person, other than an ex officio member. May serve on the Board of Governors for more than two consecutive terms:

Provided further that the Institute Teachers appointed to the Board of Governors may not serve for two consecutive terms.

- (5) The Board of Governors shall meet at least twice in a calendar year.
- (6) Service on the Board of Governors shall be on honorary basis. However, Actual expenses may be reimbursed as prescribed.
- (7) The Registrar shall be the Secretary of the Board of Governors.
- (8) In the absence of the Chancellor, meetings of the Board of Governors shall be presided over by such member, not being an employee of the Institute or the Government, as the Chancellor may, from time to time, nominate. The member so nominated shall be the convener of the Board of Governors.
- (9) Unless otherwise prescribed by this Act, all decisions of the Board of Governors shall be taken on the basis of the opinion of a majority of the members present. In the event of the member being evenly divided on any matter the person presiding over the meetings shall have a casting vote.
- (10) The quorum for a meeting of the Board of Governors shall be two thirds of its membership, a fraction being counted as one.

22. Powers and functions of the Board of Governors, - (1) The Board of Governors shall have the power of General supervision over the Institute and shall hold the Vice-Chancellor and the Authorities accountable for all the functions of the Institute. The Board of Governors shall have all powers of the Institute not expressly vested in an Authority or officer by this Act and all other powers not expressly mentioned by this Act that is necessary for the performance of its functions.

- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board of Governors shall have the following powers:-
 - (a) To approve the proposed annual plan of work, the annual and revised budgets, the annual report and the annual statement of account:
 - (b) To hold, control and lay down policy for the administration of the property. Funds and investments of the Institute, including the approval of the sale and purchase or acquisition of immovable property;

- (c) To oversee the quality and relevance of the Institute academic programs and to review the academic affair.
- (d) To approve the appointment of the Deans, Professors, Associate professors and such other senior faculty and- senior administrators as may be prescribed;
- (e) To institute schemes. Directions and guidelines for the terms and Conditions of appointment of all officers, teachers and other Employees of the Institute;
- (f) To approve strategic plans;
- (g) to approve financial resource development plans of the Institute;
- (h) To consider the drafts of Statutes and Regulations proposed by the Syndicate and the Academic Council and deal with them in the manner as provided for in sections 31 and 32, as the case may be:

Provided that the Board of Governors may frame a Statute or Regulation on its own initiative and approve it after calling for the advice of the syndicate or the Academic Council as the case may be;

- (i) To annul by order in writing the proceeding of any Authority or officer if the Board of Governor are satisfied that such proceedings are not in accordance with the provision of this, Act, Statutes or Regulation after calling upon such Authority or officer to show because why such proceedings should not be annulled:
- (j) to recommend to the Chancellor removal of any member of the Board of Governors in accordance with the provisions of this Act:
- (k) To make appointment of members of the Syndicate, other than ex officio members, in accordance with the provisions of that Act;
- (l) to make appointment of members of the Academic Council, other than ex officio members, in accordance with the provisions of this Act;
- (m) to appoint Emeritus Professors on such terms and conditions as may be prescribed:
- (n) to remove any person from the membership of any Authority if such person:
 - i. has become of unsound mind; or

- ii. has become incapacitated to function as member of such Authority;
or
- iii. has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude, and

(o) To determine the form. Provide for the custody and regulates the use of the common seal of the Institute.

(3) The Board of Governors may, subject to the provisions of this Act delegate all or any of the powers and functions of any Authority, officer or employee of the Instituted at its main campus, to any Authority, committee, officer or employee at its additional campus for the purpose of exercising such powers and performing such functions in relation to such additional campus, and for this purpose the Board of Governors may create new posts or position at the additional Campus,

23. Visitation.- The Board of Governors may, in accordance with the terms and procedures as may be prescribed, because an inspection is made in respect of any matter connected with the Institute.

24. Syndicate. - (1) There shall be a Syndicate of the Institute consisting of The following:-

- a) The Vice-Chancellor who shall be its Chairperson;
- b) The Pro Vice-Chancellor;
- c) The Deans of the Faculties of the Institute;
- d) Three profesors from different departments, who are not members of the Board of Governors, to be elected by the Institute Teachers in accordance with procedure to be prescribed by the Board of Governors;
- e) Principals of the constituent colleges/units;
- f) The Registrar;
- g) The Director (QEC);
- h) The Director (ORIC);
- i) The Director (P&D);
- j) The Treasurer; and
- k) The Controller of Examinations;

(2) Members of the Syndicate, other than ex official members, shall hold office for three years.

- (3) As regards the three Professors described in clause (d) of sub-section (1) The Board of Governors may, as an alternative to elections, prescribe a procedure for proposal of a panel of names by the Representation Committee set up in terms of section 28. Appointment of persons proposed by the Representation Committee may be made by the Board of Governors on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- (4) The quorum for a meeting of the Syndicate shall be one-half of the total number of members, a fraction being counted as one
- (5) The Syndicate shall meet at least once in each quarter of the year.

25. Powers and duties of the Syndicate,-(1) The Syndicate shall be the executive body of the Institute and shall, subject to the provisions of this Act and the statute, exercise general supervision over the affairs and management of the Institute.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, and subject to the provisions of this Act, the Statutes and direction of the Board of Governors the Syndicate shall have the following power:-

- (a) To consider the annual report, the annual and revised budget estimate and to submit these to the Board of Governors:
- (b) To transfer and accept transfer of movable property on behalf of the Institute:
- (c) To enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute:
- (d) To cause proper books of account to be kept for all sums of money received and expended by the Institute and for the assets and liabilities of the Institute;
- (e) To invest any money belonging to the Institute including any unapplied income in any of the securities described in section 20 of the Trusts Act, 1882 (Act II of 1882), or in the purchase of Immovable property or in such other manner, as it may prescribe, with the like power of varying such investments;
- (f) to receive and manage any property transferred, and grant, bequests trust, gift, donations, endowments. And other contribution⁵ made to the Institute

- (g) to administer any funds placed at the disposal of the Institute for specified purposes;
- (h) To provide the buildings, libraries, premises, furniture, apparatus, equipment and other means required for carrying out the work of the Institute:
- (i) to establish and maintain halls of residence and hostels or approve or license hostels or lodgings for the residence of students:
- (j) to recommend to the Board of Governors admission of educational institutions to the privilege of the Institute and withdraw such privileges.
- (k) To arrange for the inspection of schools and the department
- (l) To institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, Lectureships, and other teaching posts or to suspend or to abolish such posts;
- (m) To create, suspend or abolish such administrative or other posts as may be necessary;
- (n) To prescribe the duties of officers, teachers and other employees of the Institute;
- (o) To report to the Board of Governors on matters with respect to which it has been asked to report;
- (p) To appoint members to various Authorities in accordance with the provisions of this Act;
- (q) To propose drafts of Statutes for submission to the Board of Governors;
- (r) To regulate the conduct and discipline of the students of the Institute;
- (s) To take actions necessary for the good administration of the Institute in general and to this end exercise such powers as are necessary;
- (t) To delegate any of its powers to any Authority or officer or a committee; and
- (u) To perform such other functions as have been assigned to it by the provisions of this Act or may be assigned to it by the Statutes.

26. Academic Council. - (1) There shall be an Academic Council of the Institute consisting of the following-

- (a) The Vice Chancellor who shall be it, Chairperson

- (b) The Pro Vice-Chancellor (Admin & Finance);
- (c) The Pro Vice Chancellor (Academic & Research);
- (d) The Deans of Faculties and such Heads of department as may be prescribed;
- (e) Five members representing the departments, institutes, and the constituent schools to be elected in the manner prescribed by The Board of Governors;
- (f) Five Professors including Emeritus Professors;
- (g) The Registrar;
- (h) The Director (QEC);
- (i) The Director (QRIC);
- (j) The Controller of Examinations; and
- (k) The Librarian.

- (2) The Board of governors shall appoint the members of the Academic Council, other than the ex-official and the elected members, on the recommendation of the Vice Chancellor:

Provided that as regards the five professors and the members representing the department, institutes and the constituent Schools the Board of Governors may as an alternative to election, prescribe a procedure for proposal of a panel of names by the representation Committee set up in terms of section 28. Appointment of persons proposed by the Representation Committee may be made by the board of Governors on the recommendation of the Vice Chancellor.

- (3) Members of the Academic Council shall hold office for three years.
- (4) The Academic Council shall meet at least once in each quarter.
- (5) The quorum for meetings of the Academic Council shall be one half of the total number of members, a fraction being counted as one.

27. Powers and Functions of the Academic Council.- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the institute and shall, subject to the provisions of this, Act and the statutes, have the power to lay down proper standards of instruction, research and examinations and to regulate and promote the academic Life of the institute and the Schools.

- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers. and subject to

the provisions of this Act and the Statutes, the Academic Council shall have the power to-

- (a) approve the policies and procedures pertaining to the quality of academic programme;
- (b) approve academic programmes;
- (c) approve the policies and procedures pertaining to student related functions including admission, expulsions, punishments, examinations and certification;
- (d) approve the policies and procedures assuring quality of teaching and research;
- (e) propose to the Syndicate schemes for the constitution and organization of Faculties, teaching departments and Boards of Studies;
- (f) appoint paper setters and examiners for all examinations of the Institute after receiving panels of names from the relevant authorities;
- (g) Institute programmes for the continued professional development of Institute Teachers at all levels;
- (h) Recognize the examinations of other Universities or examining bodies as equivalent to the corresponding examinations of the Institute;
- (i) Regulate the award of studentships, scholarships, exhibitions medals and prizes;
- (j) Frame Regulations for submission to the Board of Governors;
- (k) Prepare an annual report on the academic performance of the Institute; and
- (l) Perform such functions as may be prescribed by Regulations,

24. Representation Committee. - (1) There shall be representation Committee constituted by the Board of Governors through Statute for recommendation of persons for appointment to the Board of Governor in accordance with the provision of section 21.

- (2) There shall also be a Representation Committee constituted by the Board of Governors through Statute for the recommendation of persons for

appointment to the Syndicate and the Academic Council in accordance with the provisions of sections 25 and 27.

- (3) Member of the Representations Committee for appointments to the Board of Governors shall consist of the following:-
 - (a) Three members of the Board of Governors who are not Institute Teachers;
 - (b) Two persons nominated by the Institute Teachers from amongst themselves in the manner prescribed;
 - (c) One person from the academic community, not employed by the Institute, at the level of professor or school principal to be nominated by the Institute Teachers in the manner prescribed; and
 - (d) One eminent citizen with experience in administration, philanthropy, development work, law or accountancy to be nominated by the Board of Governors
- (4) The Representation Committee for appointments to the Syndicate and the Academic Council shall consist of the following:
 - (a) two member of the Board of Governor who are not Institute Teachers, and
 - (b) three persons nominated by the Institute Teachers from amongst themselves in the manner prescribed;
- (5) The tenure of the Representation Committees shall be three years:
Provided that no member shall serve for more than two consecutive terms!
- (6) The procedures of the Representation Committee shall be as may be prescribed,
- (7) There may also be such other Representations Committee set up by any of the other Authorities of the Institute as are considered appropriate for recommending persons for appointment to the various Authorities and other bodies of the Institute.

29. Appointment of committee by certain Authorities. - (1) The Board of Governors, the Syndicate, the Academic Council and other Authorities may, from time to time, appoint such standing, special or advisory committee, as they may deem fit, and may place on such committee persons who are not members of the Authorities appointing the Committees.

- (2) The constitution, function. And powers of the Authorities for which no specific provisions has been made in this Act shall be such as may be prescribed by Statute or Regulation.

CHAPTER V

STATUTES, REGULATIONS AND RULES

30. Statutes. (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes, may be made to regulate or prescribe all or any of the following matters:-

- (a) The contents of and the manner in which the annual report to be presented by the Vice Chancellor before the Board of Governors shall be prepared:
- (b) The Institute fees and other charges,
- (c) The constitution of any pension, insurance, gratuity, provident' fund and benevolent fund for Institute employees;
- (d) The scale of pay and other terms and conditions of service of officers. Teachers and other Institute employees:
- (e) The maintenance of the register of registered graduates,
- (f) admission of educational institutions to the privilege of the Institute and the withdrawal of such privileges;
- (g) The establishment of Faculties, departments, institutes, schools and other academic division
- (h) The powers and duties of officers and teachers
- (i) Conditions under which the Institute may enter into arrangements with other institution or with public bodies for purposes of research and advisory services:
- (j) conditions for appointment of Emeritus Professors and award of honorary degrees:
- (k) Efficiency and discipline of Institute employees;
- (l) The constitution and procedure to be followed by Representation Committees in carrying out functions in terms of this Act:
- (m) the constitution and procedure to be followed by the Search Committee for appointment of the Vice Chancellor
- (n) constitution, function and powers of the Authorities of the Institute: are

(o) All other matters which by this Act are to be or may be prescribed or regulated by Statutes.

(2) The draft of Statutes shall be proposed by the Syndicate to the Board of Governors which may approve or pass with such modifications as the Board of Governors may think fit or may refer back to the Syndicate, as the case may be, for reconsideration of the proposed draft:

Provided that Statutes concerning any of the matters mentioned in clauses (a) and (l) of sub-section (1) shall be initiated and approved by the Board of Governors, after seeking the views of the Syndicate:

Provided further that the Board of Governor may initiate a Statute with respect to any matter in its power or with respect to which a Statute may be framed in terms of this Act and approve such Statute after seeking the views of the Syndicate.

31. Regulations.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statute, the Academic Council may make Regulations, the courses of study for degree, diplomas and certificate of the Institute:-

- (a) The manner in which the teaching referred to in sub-section (1) of section 6 shall be organized and conducted
- (b) The admissions and expulsion of Students to and from the Institute;
- (c) The conditions under which students shall be admitted to the courses and the examination of the Institute and shall become eligible for the award of degrees, diploma and certificates;
- (d) the conduct of examinations;
- (e) conditions under which a person may carry on independent research to entitle him to a degree;
- (f) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;
- (g) the use of the Library;
- (h) the formation of Faculties, departments and Board of Studies; and
- (i) all other matters which by this Act or the statutes are to be or may be prescribed by Regulation,

Provided that Regulation regarding or incidental to matters contained in sub-clauses (f) and (h) shall not be submitted to the Board of Governors without the prior approval of the Syndicate.

(2) Regulation's shall be proposed by the Academic Council and shall be submitted to the Board of Governors which may approve them or withhold approval or refer them back to the Academic Council for reconsideration. A

Regulation proposed by the Academic Council shall not be effective unless it receives the approval of the Board of Governors.

32. Amendment and repeal of Statutes and Regulations. -The procedure for adding to, amending or repealing the Statute, and the Regulations shall be the same as that prescribed respectively for framing or making Statutes and Regulations.

33. Rules.- (1) The Authorities and the other bodies of the Institute may make rules, consistent with this Act, Statutes or the Regulation's to regulates any matter relating to the affairs of the Institute which has not been provided for by this Act or that is not required to be regulated by Statutes or Regulation, including rules to regulate the conduct of business and the time and place of meetings and related matter,

(2) Rules shall become effective upon approval by the Syndicate.

CHAPTER VI

INSTITUTE FUND

34. Institute Fund. - The Institute shall have a Fund to which shall be credited its income from fees, charges, donation, trusts, bequests, endowments, contribution, grants and all other sources.

35. Audits and accounts. - (1) The accounts of the Institute shall be maintained in such form and in such manner as may be prescribed

(2) The teachings departments, constituent colleges and institutes and all Other bodies designated as such by the Syndicate in terms of Statutes shall be independent cost centers of the Institute with authority vested in the head of each cost center to; sanction expenditure out of the budget allocated to it. Provided that re-appropriation from one head of

expenditure to another may be made by the head of a cost center in accordance with and to the extent prescribed by the Statutes,

- (3) All funds generated by a teaching department, constituent collapse Or other unit of the Institute through consultancy, research or other provisions of service shall be made available without prejudice to the budgetary allocation otherwise made, after deduction of overheads in the manner and to the extent prescribed by statute, to the teaching department, constituent school or other unit for its development. A part of the funds so generated may be shared with the Institute Teachers or researcher in charge of the consultancy, research or service concerned in the manner and to the extent prescribed by Statute.
- (4) No expenditure shall be made from the funds of the Institute, unless a bill for its payments has been issued by the head of the cost center concerned in accordance with the relevant statutes and the Treasurer has verified that the payment is provided for in the approved budget of the cost center, subject to the authority to re-appropriate available to the head of the cost center.
- (5) Provision shall be made for an internal audit of the finances of the Institute.
- (6) Without prejudice to the requirement of audit by an auditor appointed, the annual audited statement of accounts of the Institute shall be prepared in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) by a reputed firm of chartered accountants and signed by the Treasurers.
- (7) The observations of the Auditor If any, together with such annotation, as the Treasurers may make, shall be considered by the Syndicate and shall be placed before the Board of Governors within six months of closing of the financial year.

CHAPTER VII GENERAL PROVISIONS

36. Opportunity to show, cause. - Except as otherwise provided by law no officer, teacher or other employee of the Institute holding a permanent post shall be reduced in rank, or removed or compulsorily retired from service for cause arising out of {any act

or omission on the part of the person concerned unless he has been given a reasonable opportunity of showing causes against the action proposed to be taken.

37. Appeal to the Syndicate and the Board of Governors. - Where an order is passed punishing any officer (other than the Vice-Chancellor), teacher or other employee of the Institute or altering or interpreting to his disadvantage the prescribed terms or conditions of his service, he shall, where the order is passed by any officer or teacher of the Institute other than the Vice-Chancellor, have the right to appeal to the Syndicate against the order, and where the order is passed by the Vice-Chancellor, have the right to appeal to the Board of Governors.

38. Service of the Institute. - (1) All persons employed by the Institute in accordance with the terms and conditions of service prescribed by Statutes shall be persons in the service of the Institute.

(2) An officer, teacher, or other employee of the Institute shall retire from service on the attainment of such age or tenure of service as may be prescribed.

39. Benefits and insurance. - (1) The Institute shall constitute for the benefit of its officers, teachers and other employees 'schemes, as may be prescribed, for the provision of post-employment benefits as well as health and Life insurance while in service.

40. Commencement of term of office of member: of Authority.- (1) when a member of a newly constituted Authority is elected, appointed, or nominated, his term of office as fixed under this Act. Shall commence from such date as may be prescribed.

(2) Where a member who has accepted any other assignment or for any other similar reason remains absent from the Institute for a period of not less than six months he shall be deemed to have resigned and vacated his seat.

41. Filling of casual vacancies, in Authorities.- (1) Any casual vacancy among the members of any Authority filled, room conveniently may the shall be as are be, in same manner and by the same person or Authority that had appointed the member whose place has become vacant and the person appointed to the vacancy shall be a

member of such Authority for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

42. Flaws in the constitution of Authorities, - where there is a flaw in the constitution Authority, as constituted this Act, Statutes the Regulations on account of the abolition of a specified office or because an organization. Institution or other body outside the Institute has been dissolved or has ceased to function, or because of some other similar reason, such flaw shall be removed in such manner as the Board of Governort may direct.

43. Proceedings of Authorities not invalidated by vacancies. - No act, resolution or decision of any Authority shall be invalid by reason of any vacancy on the Authority doing, passing. Or making it or by reason of any want of qualification or invalidity in the election. Appointment or nomination of any de facto member of the Authority, whether present or absent.

44. First Statutes and Regulations. - Notwithstanding anything to the contrary contained in thi5 Act, the Presidents of Pakistan shall promulgate the First Statues and Regulations which shall be deemed to be Statutes and Regulations framed under section 30 and 3t and shall continue to remain in force until amended or replaced or till such time as new Statutes and Regulations are framed in accordance with the provision of this Act.

45. Removal of difficulty. - (1) If any question arises are to the interpretation of any of the provijion5 of this Act, it shall be placed before the Chancellor and commission whose decision thereon shall be final.

(2) if any difficulty arise in giving effect to any of the provisions of this Act. The Chancellor may make such order after obtaining the view of the Board of Governors. Not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to him to be necessary for removing the difficulty

(3) Where this Act makes any provision for anything to be done but no provision or no sufficient provisions has been made a, respect the authority by whom, or the time at which, or the manner in which, it shall be done, then let shall be done by such authority, at such time, or in such

manner at the Chancellor may direct after obtaining the view of, the Board of Governors.

46. Indemnity. . No suit or legal proceedings shall lie against the Government, the Institute or any Authority, officer or employee of the Government or the Institute or any person in respect of anything which is done in good faith under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The purpose and objects of the establishment of the institute it to disseminate the knowledge and technology and to provide education, training and research. Further, industry and the relevant organizations or institutions to promote public private partnership, innovation and research, development, industrialization for the purpose of education, training and development shall be made. The institute shall be opened to all persons of either Gender and of whatever religion. Race, creed, class color or domicile who qualify for the admissions as set forth in the rules and Regulation and the criteria and the policy maintained by the body. Object and reasons would serve for the establishment institute.

Dr. Rafiq Shah

Member, National Assembly

[قومی اسمبلی میں پیش کردہ صورتوں میں]

ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) بل، ۲۰۲۲ء

سوسائٹیز ایکٹ، ۱۸۶۰ء، حوالہ نمبر آر پی ۵۸۵۳/۱۰ ایل/ایس/۱۰۳۶/۱۰ مورخہ ۲۲ جون، ۲۰۱۰ء کے تحت ۲۰۱۰ء میں رجسٹرڈ ایڈوانس تعلیمی ٹرسٹ کے زیر انتظام ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) کے قیام کے لئے احکام وضع کرنا۔

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) اور اس سے منسلک اور ضمنی معاملات کے لئے احکام وضع کئے جائیں؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

باب ۱

ابتدائیہ

۱- مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) ایکٹ ہذا ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی)

ایکٹ ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲- تعریفات: اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی شے متن یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،---

(i) "تعلیمی کونسل" سے ادارے کی تعلیمی کونسل مراد ہے؛

(ii) "اتھارٹی" سے دفعہ ۲۰ کی شرائط کے تحت کی صراحت کردہ یا قائم کردہ ادارے کی اتھارٹیز میں سے کوئی ایک

مراد ہے؛

(iii) "بورڈ آف گورنرز" سے مراد ادارے کا بورڈ آف گورنرز ہے؛

(iv) "چانسلر" سے مراد ادارے کا چانسلر ہے؛

(v) "ٹرسٹ" سے مراد سوسائٹیز ایکٹ، ۱۸۶۰ء حوالہ نمبر آر پی ۵۸۵۳/۱۰ ایل/ایس/۱۰۳۶/۱۰ مورخہ

۲۲ جون، ۲۰۱۰ء کے تحت ۲۰۱۰ء میں رجسٹرڈ ایڈوانس تعلیمی ٹرسٹ ہے؛

(vi) "کمیشن" سے مراد ہائیر ایجوکیشن کمیشن آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۳ بابت ۲۰۰۲ء) کے تحت قائم کردہ ہائیر

ایجوکیشن کمیشن ہے؛

- (vii) "منسلک کالج" سے مراد ادارے کی جانب سے بیان کردہ برقرار کردہ اور زیر انتظام کسی بھی نام سے کوئی تعلیمی ادارہ ہے؛
- (viii) "ڈین" سے مراد فیکلٹی کا سربراہ یا تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے جس کو اس ایکٹ یا قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے فیکلٹی کی حیثیت عطا کی گئی ہو؛
- (ix) "شعبہ" سے مراد صراحت کردہ طریقے کے مطابق ادارے کی جانب سے برقرار کردہ اور زیر انتظام، یا تسلیم کردہ تدریسی شعبہ ہے؛
- (x) "ڈائریکٹر" سے مراد اس ایکٹ کے تحت تفویض کردہ اختیارات کی رو سے قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے ادارہ کی جانب سے بطور منسلک ادارہ قائم کردہ کسی ادارے کا سربراہ ہے؛
- (xi) "فیکلٹی" سے مراد صراحت کردہ کے مطابق ایک یا ایک سے زائد اسکولوں پر مشتمل ادارے کا انتظامی اور تعلیمی یونٹ ہے؛
- (xii) "حکومت" سے مراد وفاقی حکومت ہے؛
- (xiii) "ادارہ" سے مراد ادارہ برائے منجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) ہے؛
- (xiv) "ادارہ کا استاد" سے مراد ادارہ یا ادارہ کی جانب سے تقرریاں اور تنخواہ دار کل وقتی استاد یا اس حیثیت سے ادارے کی جانب سے تسلیم کردہ استاد ہے؛
- (xv) "پیٹرن" سے مراد ادارہ کا پیٹرن ہے؛
- (xvi) "مجوزہ" سے مراد اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قوانین موضوعہ، ضوابط یا قواعد کے تحت مجوزہ ہے؛
- (xvii) "پرنسپل" سے مراد منسلک یونٹ کالج کا سربراہ ہے؛
- (xviii) "نمائندہ کمیٹیوں" سے مراد دفعہ ۲۵ کے تحت تشکیل کردہ نمائندہ کمیٹیاں ہیں؛
- (xix) "نظر ثانی پینل" سے مراد ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق چانسلر کی جانب سے تشکیل کردہ نظر ثانی پینل ہے؛
- (xx) "سرچ کمیٹی" سے مراد اس ایکٹ کے تحت بورڈ آف گورنرز کی جانب سے تشکیل دی گئی سرچ کمیٹی ہے؛
- (xxi) "جدول" سے مراد اس ایکٹ کا جدول ہے؛
- (xxii) "قوانین موضوعہ، ضوابط و قواعد" سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت وضع کردہ اور فی الوقت نافذ العمل قوانین موضوعہ، ضوابط و قواعد ہیں؛
- (xxiii) "سٹڈی کیٹ" سے مراد ادارے کا سینڈ کیٹ ہے؛
- (xxiv) "اساتذہ" میں ادارے کی جانب سے یا تشکیلی ادارے کی جانب سے کل وقتی ملازم پروفیسرز، ایسوسی ایٹ

پروفیسرز، اسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرار اور ایسے دیگر افراد جن کو ضوابط کے ذریعے اساتذہ قرار دیا گیا ہو، شامل ہیں؛ اور

(xxv) ”وائس چانسلر“ سے مراد ادارے کا وائس چانسلر ہے۔

باب ۲

ادارہ

۳۔ انسٹی ٹیوٹ کا قیام و انضمام:- (۱) لاہور میں ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو ادارہ برائے میجمنٹ و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) کہلائے گا۔

(۲) ادارہ حسب ذیل پر مشتمل ہوگا، یعنی:-

(الف) پیٹرن، چانسلر، بورڈ آف گورنرز کے اراکین، سٹڈی کیٹ اور وائس چانسلر؛

(ب) دفعہ ۱ کے تحت قائم کردہ انسٹی ٹیوٹ کی اتھارٹیز کے اراکین؛

(ج) ادارے کے تمام اساتذہ اور افراد جو وقتاً فوقتاً مقرر کردہ شرائط کے مطابق ادارے کے طالب علموں

کے طور پر پہنچانے جاتے ہیں؛ اور

(د) ادارے کے عملے کے دیگر تمام کل وقتی افسران اور اراکین۔

(۳) ادارہ ایسے نام سے جو نوٹیفائی کیا جائے ایک ہیئت جسدیہ ہوگا اور یہ دوامی توارث اور مشترکہ مہر کا حامل ہوگا اور

یہ مذکورہ نام سے کسی کے خلاف مقدمہ کر سکے گا یا اس کے خلاف خلاف مقدمہ کیا جاسکے گا۔

(۴) ادارہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد حاصل کرنے اور رکھنے، لیز پر دینے، فروخت کرنے یا بصورت دیگر کسی

منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، جو اس کے لئے وقف ہو یا اس نے حاصل کی ہو کو منتقل کرنے کا مجاز ہوگا۔

(۵) بلا لحاظ اس امر کے کہ اس وقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں کچھ مذکور ہو، ادارہ کو نصابی، مالی اور انتظامی

خود مختاری بشمول صراحت کردہ شرائط پر افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کو ملازمت دینے کا اختیار شامل ہوگا جو ایک ہذا اور ہائر

ایجوکیشن کمیشن آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۳ بابت ۲۰۰۲ء) کی شرائط سے مشروط ہے۔ خاص طور پر، قانون کے ذریعے کمیشن کو

عطا کردہ اختیار پر اثر انداز ہوئے بغیر، حکومت یا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کوئی اتھارٹی یا آڈیٹر کو ادارہ کے سالانہ بجٹ میں

بورڈ کی جانب سے منظور کردہ وسائل کی تخصیص کے لئے بنائی گئی پالیسی پر سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

۴۔ ادارہ کے اختیارات اور کارہائے منصبی:- ادارہ حسب ذیل اختیارات کا حامل ہوگا، یعنی:-

(i) تعلیم کے ان شعبوں، جیسا کہ وہ مناسب تصور کرے میں تعلیم اور وظائف کی فراہمی، اور تحقیق کے لئے

انتظامات وضع کرنا، معاشرے کی خدمت اور ایسے طریقے سے علم کے اطلاق، فروغ اور پھیلانے کا

بندوبست کرنا، جس کا وہ تعین کرے؛

- (ii) اپنے لئے اور اپنے منسلک کالجوں ریونٹوں کے لئے مطالعاتی کورسز تجویز کرنا؛
- (iii) امتحانات لینا اور ڈگریاں، ڈپلومے، اسناد اور دیگر تعلیمی امتیازات دینا اور عطا کرنا ان اشخاص کو جن کو داخلہ دیا گیا ہو، اور جنہوں نے مقررہ شرائط کے تحت کامیابی حاصل کی ہو؛
- (iv) ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کی ملازمت کے قواعد و شرائط وضع کرنا؛ اور ایسی شرائط و ضوابط جو عمومی طور پر سرکاری ملازمین پر قابل اطلاق شرائط و ضوابط سے مختلف ہو سکتی ہیں؛
- (v) جہاں ضروری ہو، مقررہ مدت کے لئے اشخاص کا کنٹریکٹ پر تقرر کرنا اور ہر ایک کے تقرر کی شرائط کی صراحت کرنا؛
- (vi) مقررہ طریقہ کے مطابق منظور شدہ اشخاص کو اعزازی ڈگریاں امتیازات عطا کرنا؛
- (vii) ایسے اشخاص جو کہ ادارہ کے طالب علم نہ ہوں کے لئے ایسی ہدایات کی صراحت کرنا جو کہ یہ تجویز کر سکتا ہے، اور ایسے اشخاص کو اسناد اور ڈپلومہ عطا کرنا؛
- (viii) پاکستان کے اندر اور باہر، ادارے اور دیگر اداروں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور تحقیقی تنظیموں کے مابین طالب علموں اور اساتذہ کے تبادلوں کے لئے پروگرام ترتیب دینا؛
- (ix) طالب علموں اور فارغ التحصیل طالب علموں کو کیریئر سے متعلق مشاورت اور ملازمت کی تلاش کی خدمات فراہم کرنا؛
- (x) فارغ التحصیل طالب علموں کے ساتھ روابط برقرار رکھنا؛
- (xi) فنڈ جمع کرنے کے منصوبوں کو تیار اور ان پر عمل درآمد کرنا؛
- (xii) ادارہ کی فیکلٹی کی تعلیمی ترقی کے ضمن میں معاونت کرنا اور اس کی صراحت کرنا؛
- (xiii) ان اشخاص کو جنہوں نے مقررہ شرائط کے تحت آزادانہ تحقیق کی ہو کو ڈگریاں دینا؛
- (xiv) ادارہ کے طالب علموں کی طرف سے دیگر یونیورسٹیوں اور درسگاہوں میں پاس کئے گئے امتحانات اور گزارے گئے تعلیمی دورانیہ کو تسلیم کرنا اور ایسے امتحانات اور تعلیمی دورانیہ کو ادارہ کے امتحانات اور تعلیمی دورانیہ کے مساوی تسلیم کرنا، جیسا کہ یہ مقرر کرے، اور مذکورہ دی گئی منظوری واپس لینا؛
- (xv) مقرر کردہ طریقہ کار اور مقاصد کے مطابق، پاکستان اور بیرون پاکستان دیگر یونیورسٹیوں، سرکاری اداروں یا نجی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا؛
- (xvi) پروفیسر شپ، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپ، اسٹنٹ پروفیسر شپ اور لیکچرر شپ اور کوئی دیگر اسمیاں تخلیق کرنا اور ان پر اشخاص کا تقرر کرنا؛
- (xvii) تحقیق، توسیع، انتظام اور دوسری متعلقہ اغراض کے لئے اسمیاں تخلیق کرنا اور ان پر اشخاص کا تقرر کرنا؛

- (xviii) ادارے کے مراعات میں داخل کالجوں یا تعلیمی اداروں کے تدریسی عملہ کے منتخب شدہ اراکین یا ادارے کے اساتذہ کی حیثیت سے ایسے دیگر اشخاص، جیسا کہ وہ مناسب خیال کرے، کو تسلیم کرنا؛
- (xix) مقررہ شرائط کے تحت ضرورت مند طالب علموں کو مالی امداد کا آغاز کرنا اور فراہم کرنا، نیز فیلوشپ، اسکالرشپ، وظائف میڈلز اور انعامات دینا؛
- (xx) تدریسی اور تحقیقی ترقی اور تکنیکی تربیت اور خصوصی علوم کے فروغ کے لئے منسلک کالجوں تدریسی شعبہ جات، فیکلٹیز، ادارے، میوزیم اور تعلیم کے دیگر مراکز قائم کرنا اور اس طریقہ کار اور قواعد کے مطابق ان کی دیکھ بھال، نگرانی اور انتظام کرنا جو مقررہ کیا جاسکتا ہے؛
- (xxi) ادارہ اور کالجوں کے طالب علموں کی رہائش کا اہتمام کرنا، ادارے کے پونٹ کی تشکیل دینا، رہائش گاہوں کے بالوں کو قائم اور برقرار رکھنا اور ہاسٹلوں اور قیام گاہوں کی منظوری یا لائسنس فراہم کرنا؛
- (xxii) ادارہ کے کیمپسوں اور منسلک یونٹوں میں امن وامان، نظم و ضبط اور سیکیورٹی قائم کرنا؛
- (xxiii) طالب علموں کی غیر نصابی اور تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور ان کی صحت اور عمومی بھلائی کے فروغ کے لئے انتظامات کرنا؛
- (xxiv) ایسی فیسیں اور دیگر اخراجات طلب کرنا اور وصول کرنا جن کا وہ تعین کرے؛
- (xxv) تحقیق، مشورے یا مشیرانہ خدمات کا انتظام اور ان مقاصد کے لئے دوسرے اداروں، سرکاری یا نجی ہیئتوں، تجارتی اور صنعتی اداروں کے ساتھ مقررہ شرائط کے تحت انتظامات میں شامل ہونے کے لئے صراحت کرنا؛
- (xxvi) معاہدات کرنا اور ان کی تعمیل کرنا، ان کو تبدیل یا منسوخ کرنا؛
- (xxvii) ادارہ کو منتقل کی گئی جائیداد اور دی گئیں امدادی رقوم، عطیات وصول کرنا اور ان کے انتظامات کرنا اور مذکورہ جائیداد، امدادی رقوم، میراث، امانیہ جات (ٹرسٹ)، حبہ جات، عطیات اور اوقاف یا چندہ جات کو ظاہر کرنے والے فنڈز کی سرمایہ کاری اس طریقہ کار کے مطابق کرنا جیسا کہ وہ مناسب سمجھے؛
- (xxviii) تحقیق اور دیگر تخلیقات کی طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا؛ نیز
- (xxix) ایسے تمام دیگر افعال انجام دینا، جو خواہ مذکورہ بالا اختیارات کے ضمنی ہوں یا نہ ہوں، جو ادارہ کے مقاصد جیسا کہ تعلیم، تحقیق، پیشہ وارانہ اور تکنیکی تربیت، خصوصی تعلیم کے مرکز کے طور پر اور محسوس اور غیر محسوس ثقافتی ورثہ کے تحفظ کے مقاصد کی ترقی کے لئے مطلوب ہو۔

(ط) خزانچی؛

(ی) کثیر و لرا امتحانات؛ اور

(ک) ایسے دیگر اشخاص جن کی قانون موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے صراحت کی جائے۔

۸۔ سرپرست۔ (۱) صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ادارہ کا سرپرست ہوگا۔

(۲) سرپرست جب حاضر ہو تو ادارہ کے کانووکیشن کی صدارت کرے گا۔ سرپرست کی غیر موجودگی میں

چانسلر ادارہ کے کانووکیشن کی صدارت کرے گا۔

(۳) اعزازی ڈگری دینے کی ہر تجویز سرپرست کی جانب سے توثیق سے مشروط ہوگی۔

۹۔ معائنہ۔ (۱) سرپرست مجوزہ قیود طریق ہائے کار کے مطابق ادارہ کے امور سے متعلق کسی معاملہ میں

از خود یا کمیشن کی درخواست پر معائنہ یا انکوآئری کر سکتا ہے اور وقتاً فوقتاً کسی شخص یا اشخاص کو درج ذیل کی جانچ پڑتال یا معائنہ

کرنے کی ہدایت جاری کرے گا:-

(الف) ادارہ، اس کی عمارت، حجرہ گاہوں، لائبریریوں یا دیگر سہولیات؛

(ب) ادارہ کے زیر انتظام کوئی ادارہ، شعبہ یا بائبل؛

(ج) اقتصادی و انسانی وسائل کی موزونیت؛

(د) تدریس، تحقیق، نصاب، امتحان اور ادارہ کے دیگر امور؛

(ه) سرپرست کے مختص کردہ ایسے دیگر امور۔

(۲) سرپرست معائنہ کے نتائج کی بابت اپنے آراء بورڈ آف گورنرز کو پہنچائے گا اور بورڈ آف گورنرز کی آراء معلوم

کرنے کے بعد چانسلر کو اس پر کارروائی کرنے کا مشورہ دے گا۔

(۳) چانسلر سرپرست کی جانب سے مقررہ وقت کے اندر اسے ایسی کارروائی کا بتائے گا، اگر معائنہ کے نتائج پر کوئی

کارروائی کی گئی یا کئے جانے کی تجویز ہو۔

(۴) اگر بورڈ آف گورنرز مقررہ وقت کے اندر ایسا اقدام نہیں اٹھاتا جس سے سرپرست مطمئن ہو تو سرپرست

ہدایات جاری کر سکتا ہے جنہیں وہ مناسب خیال کرے اور بورڈ آف گورنرز ان تمام ہدایات پر عمل درآمد کرے گا۔

۱۰۔ چانسلر۔ (۱) ادارہ برائے مینجمنٹ و ٹیکنالوجی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئر پرسن ادارے کا چانسلر

ہوگا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز کے اراکین اور وائس چانسلر کی تقرری چانسلر کی جانب سے اس مقصد کے لئے ایکٹ ہذا اور قانون موضوعہ یا جیسی بھی صورت ہوگی روشنی میں تشکیل کردہ علی الترتیب نمائندہ کمیٹی یا سرچ کمیٹی کی جانب سے منتخب افراد کے ساتھ سفارش کردہ افراد میں سے کی جائے گی۔

(۳) اگر چانسلر سمجھتا ہے کہ ادارہ یا اتھارٹی کے معاملات میں سنگین بے ضابطگی یا بد انتظامی وقوع پذیر ہوئی ہے تو

وہ:-

(الف) بورڈ کی کارروائیوں کے ضمن میں، ان مخصوص کارروائیوں پر دوبارہ غور کرنے اور ہدایت کے جاری کئے جانے کے ایک ماہ کے اندر مناسب اقدام کرنے کی ہدایت جاری کر سکتا ہے؛

بشرطیکہ اگر چانسلر سمجھتا ہو کہ یا تو دوبارہ غور نہیں کیا گیا ہے یا پھر دوبارہ غور کرنے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، تو وہ بورڈ سے اظہار وجوہ کا تحریری جواب طلب کرے گا اور ایک پانچ رکنی جائزہ بینل مقرر کرے گا تاکہ وہ بورڈ آف گورنرز کے کار منصبی کا جائزہ لے اور اس ضمن میں چانسلر کو رپورٹ پیش کرے۔ نظر ثانی بینل کا انتخاب تعلیم، قانون، حسابداری اور انتظامی شعبوں میں معروف اور نمایاں اشخاص میں سے کیا جائے گا نیز نظر ثانی بینل کی رپورٹ چانسلر کی جانب سے مقررہ وقت کے اندر پیش کی جائے گی؛ نیز

(ب) جہاں تک کسی اتھارٹی کی کارروائیوں یا بورڈ آف گورنرز کے علاوہ کسی اتھارٹی کے اختیارات کے اندر معاملات کا تعلق ہے، تو وہ بورڈ آف گورنرز کو دفعہ ۲۴ کے تحت اختیارات استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے؛

۱۱۔ بورڈ آف گورنرز کی برطرفی:- (۱) چانسلر نظر ثانی بینل کی سفارش پر، کسی شخص کو درج ذیل وجوہات کی بناء پر بورڈ آف گورنرز کی رکنیت سے برطرف کر سکتا ہے کہ ایسا شخص:

(الف) اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، یا

(ب) بورڈ آف گورنرز کے رکن کی حیثیت سے فرائض سرانجام دینے کے قابل نہ رہا ہو؛ یا

(ج) عدالت کی جانب سے اختلافی گراؤ سمیت کسی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو؛

(د) بغیر کسی ٹھوس وجہ کے دو مسلسل اجلاسوں سے غیر حاضر رہا ہو؛ یا

(ه) کسی قسم کے ذاتی مفاد کی خاطر پوزیشن کا استعمال بشمول غیر شائستگی / بد معاہلی کا مجرم ہو یا امور کی

سرانجام دہی میں غیر مستعد ہو؛

(۲) چانسلر، بورڈ آف گورنرز کی کم از کم تین چوتھائی رکنیت سازی کی حمایت سے مذکورہ شخص کی برخاستگی کے لئے

قرارداد لانے پر کسی شخص کو بورڈ آف گورنرز کی رکنیت سازی سے برخاست کرے گا؛

بشرطیکہ مذکورہ قرارداد سے قبل بورڈ آف گورنرز متعلقہ رکن کو شفاف سماعت کا موقع فراہم کرے گا۔

بشرطیکہ اس دفعہ کی تصریحات کا بورڈ آف گورنرز کے رکن کے طور پر وائس چانسلر پر اطلاق نہیں ہوگا۔

۱۲۔ وائس چانسلر:- (۱) ادارہ کا ایک وائس چانسلر ہو گا جو نمایاں تعلیم کا حامل ہو گا یا ممتاز منتظم ہو گا اور اس کا مجوزہ شرائط قیود پر اس کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) وائس چانسلر ادارہ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو گا جو ادارہ کے تمام انتظامی اور تعلیمی امور کا ذمہ دار ہو گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ادارہ کی عمومی کارکردگی اور بہتر نظم و نسق ایکٹ ہذا کی تصریحات قانون، ضوابط اور قواعد پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر بشمول ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین پر انتظامی کنٹرول اس مقصد کے لئے تمام مجوزہ اختیارات کا حامل ہو گا۔

(۳) وائس چانسلر ہال اگر موجود ہو تو ادارہ کی کسی اتھارٹی یا باڈی کے کسی اجلاس میں شرکت کا مستحق ہو گا۔

(۴) وائس چانسلر، ہنگامی حالت میں جس میں کہ اس کی رائے میں فوری کارروائی کرنا درکار ہو اور ایسی کارروائی کرنا عموماً وائس چانسلر کے دائرہ اختیار میں نہ آتی ہو، تو وہ ایسی کارروائی کر سکے گا اور بورڈ کو رپورٹ کرے گا۔

(۵) وائس چانسلر حسب ذیل اختیارات استعمال کر سکے گا: یعنی

(الف) ادارہ کے معلمین، افسران اور دوسرے ملازمین کو ادارہ میں امتحان، انتظام اور ایسی دوسری سرگرمیوں سے متعلق ایسے امور تفویض کرے گا جو ادارہ کے اغراض کے لئے ضروری سمجھے؛

(ب) دوبارہ مہندی کے ذریعے اتنی رقم کی منظوری دینا جو اس رقم سے زیادہ نہ ہو جس کی بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کسی ایسی نادیدہ مد میں منظوری دی گئی ہو جو بجٹ میں شامل نہ ہو؛ اور آئندہ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کو رپورٹ کرے گا؛

(ج) ادارہ کے اس قسم کے ملازمین کا تقرر اس طریقہ کار کے مطابق کرنا جن کی صراحت قوانین موضوعہ میں کردی گئی ہو؛

(د) ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دوسرے ملازمین کو، مقررہ طریقہ کار کے مطابق ملازمت سے معطل کرنا، سزا دینا اور برطرف کرنا سوائے ان کے جن کی تقرری بورڈ آف گورنرز کی جانب سے یا اس کی منظوری سے ہوئی ہے؛

(ه) ان شرائط کے تابع جو مقرر کی جائیں، اس ایکٹ کے تحت کوئی اختیارات ادارہ کے افسر یا افسران کو تفویض کر سکے گا؛ اور

(و) ایسے دوسرے اختیارات اور کارہائے منصبی استعمال کرے گا اور انجام دے گا جیسے کہ مقررہ ہوں۔

(۶) وائس چانسلر، چانسلر کی عدم موجودگی پر غیر حاضری میں ادارہ کے تمام کانووکیشن کی صدارت کرے گا۔

(۷) وائس چانسلر تعلیمی سال ختم ہونے کے تین ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کرے

گا۔ سالانہ رپورٹ میں ایسی معلومات پیش کی جائیں گی جو کہ زیر نظر ثانی تعلیمی سال سے متعلق ہوں جیسا کہ مقررہ ہو، بشمول حسب ذیل پر مشتمل تمام متعلقہ حقائق کے انکشاف کے۔

(الف) تعلیمی؛

(ب) تحقیقی؛

(ج) انتظامی؛ اور

(د) مالیاتی۔

(۸) وائس چانسلر کی سالانہ رپورٹ بورڈ آف گورنرز کے روبرو پیش ہونے سے قبل تمام افسران اور ادارہ کے معلمین کو فراہم کی جائے گی اور اتنی تعداد میں شائع کی جائے گی جو اس کی وسیع تشریح کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہو۔

۱۳۔ وائس چانسلر کی تقرری اور برطرفی۔ (۱) وائس چانسلر کا تقرر بورڈ آف گورنرز کی سفارشات کی بنیاد پر کرے گا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز، وائس چانسلر کے تقرر کے لئے موزوں افراد کی سفارش کرنے کے لئے تحقیقی کمیٹی کی تشکیل اس تاریخ کو اور اس طریقے سے کرے گی جو قانون موضوعہ کے مطابق مقرر کیا جائے گا اور یہ چانسلر کی جانب سے معاشرہ سے نامزد کردہ دو معروف اراکین، بورڈ کے دو اراکین، دو نمایاں و ممتاز استاد جو کہ ادارہ کے اراکین نہ ہوں اور ایک ماہر تعلیم جو کہ ادارہ کا ملازم نہ ہو، پر مشتمل ہوگی۔ ادارہ کے دو ممتاز اساتذہ کے انتخاب کا طریقہ کار قانون موضوعہ کے ذریعے تجویز کیا جائے گا جس میں عمومی طور پر ادارہ کے اساتذہ کی جانب سے موزوں ناموں کی سفارش کی صراحت کی جائے گی۔

(۳) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی تقرری کے لئے سرچ کمیٹی کی جانب سے مجوزہ فرد پر غور کیا جائے گا اور بورڈ آف گورنرز کی جانب سے چانسلر کو ترجیحاً تین افراد کے پینل کی سفارش کی جائے گی؛

بشرطیکہ، چانسلر سفارش کردہ تین افراد کی تقرری کو رد کر سکتا ہے اور نئے پینل کی سفارشات طلب کر سکتا ہے۔ چانسلر کی جانب سے طلب کردہ نئی سفارشات کے موقع پر سرچ کمیٹی مجوزہ طریقہ کار میں بورڈ آف گورنرز کو تجویز دے گی۔

(۴) قانون موضوعہ کے تحت مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق وائس چانسلر کے عہدہ کی مدت قابل تجدید عرصہ چار سال کے لئے ہوگی۔ چانسلر، موجودہ وائس چانسلر کے حق میں بورڈ آف گورنرز کے تجدید کی قرارداد موصول ہونے پر اس کی مدت میں توسیع کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کو ایسی قرارداد پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایات دے سکتا ہے۔

(۵) بورڈ آف گورنرز اپنے اراکین کی تین چوتھائی تعداد کی جانب سے منظور شدہ قرارداد کی تعمیل میں چانسلر کو سفارش کرے گا کہ وائس چانسلر کی نااہلیت، اخلاقی گراؤ یا جسمانی یا دماغی معذوری یا غلط رویہ بشمول کسی طرح کے ذاتی مفاد کے لئے اس عہدہ کے غلط استعمال کی بناء پر برطرف کیا جائے۔

مگر شرط یہ ہے کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کے لیے ریفرنس وضع کر سکتا ہے جس میں وائس چانسلر کے ذمہ نااہلیت، اخلاقی پستی یا جسمانی یا ذہنی عدم استعداد یا مجموعی بد انتظامی کی مثالیں بیان کر سکے گا جو کہ اس کی توجہ میں آئیں۔ ریفرنس پر

غور و خوض کے بعد بورڈ آف گورنرز، اس کے دو تہائی اراکین کی اس پر منظور کردہ قرارداد کے مطابق چانسلر کو وائس چانسلر کی برخاستگی کی سفارش کرے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کی برخاستگی کی قرارداد پر دو مہنگ سے قبل وائس چانسلر کو شنوائی کا موقع دیا جائے گا۔
 (۶) وائس چانسلر کی برخاستگی کی سفارش کی قرارداد فی الفور چانسلر کو پیش کی جائے گی۔ چانسلر سفارش کو قبول کر سکتا ہے اور وائس چانسلر کی برخاستگی کا حکم دے سکتا ہے یا سفارش بورڈ کو واپس بھجوا سکتا ہے۔
 (۷) کسی بھی وقت جب وائس چانسلر کا عہدہ خالی ہو، یا وائس چانسلر غیر حاضر ہو یا بیماری یا کسی دوسری وجوہات کی بناء پر اپنے عہدہ کے کارہائے منصبی ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو بورڈ، وائس چانسلر کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایسے انتظامات کرے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

۱۴۔ رجسٹرار۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق ادارہ کے رجسٹرار کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) تجربہ نیز اس طرح کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ قابلیت جو رجسٹرار کی اسامی کے لئے ضروری ہو، ایسی ہوں گی جیسا کہ مقرر کی جاسکتی ہیں۔

(۳) رجسٹرار ادارہ کا کل وقتی افسر ہو گا اور حسب ذیل امور انجام دے گا:

(الف) ادارہ کی سیکرٹریٹ کا انتظامی سربراہ ہو گا اور ادارہ کے اتھارٹیز کے لئے سیکرٹریٹ (دفتری) معاونت کے اہتمام کا ذمہ دار ہو گا:

(ب) مہر عام اور ادارہ کے تعلیمی ریکارڈ کا نگران ہو گا؛

(ج) مقررہ طریقہ کار پر اندراج شدہ گریجویٹس کار رجسٹرار کے قریب رکھے گا؛

(د) مقررہ طریقہ پر مختلف اتھارٹیز اور دیگر ہیٹوں کے اراکین کے الیکشن کی کارروائی، تقرر یا انتخاب کی نگرانی کرے گا؛ اور

(ه) مذکورہ دیگر فرائض منصبی ادا کرے گا جیسا کہ مقرر ہوں۔

(۴) رجسٹرار کے عہدہ کی مدت قابل تجدید عرصہ تین سال کے لئے ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے پر بورڈ آف گورنرز مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر رجسٹرار کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۵۔ خزانچی۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق ادارہ کے خزانچی کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) خزانچی کے عہدہ پر تقرر کے لئے ضروری تجربہ اور پیشہ ورانہ و تعلیمی قابلیت وہی ہوگی جیسا کہ مقرر ہو۔

(۳) خزانچی ادارے کا افسر اعلیٰ مالیات (چیف فنانشل افسر) ہو گا اور۔۔۔

(الف) ادارہ کے اثاثہ جات، واجبات، وصولیات، اخراجات اور فنڈز اور سرمایہ کاریوں کا انتظام کرے گا؛

(ب) ادارہ کا سالانہ اور نظر ثانی شدہ میزانیاتی تخمینہ جات کی تیاری کرے گا اور انہیں سنڈیکیٹ یا اس کی کسی کمیٹی کو منظوری اور بجٹ میں شامل کئے جانے کے لئے پیش کرے گا جو بورڈ آف گورنرز کو پیش کیا جائے گا؛

(ج) اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ادارہ کے فنڈز ان اغراض کے لئے استعمال ہوں جن کے لئے وہ فراہم کئے جاتے ہیں؛

(د) ادارہ کے کھاتوں (اکاؤنٹس) کا سالانہ آڈٹ کروائے گا جو مالی سال کے اختتام کے چھ ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کو پیش کئے جانے کے لئے دستیاب ہوں گے؛ نیز ایسے دوسرے فرائض منصبی ادا کرے گا جیسا کہ مقرر کئے جائیں۔

(۴) خزانچی کے عہدہ کی میعاد قابل تجدید تین سال ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے سے بورڈ آف گورنرز مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر خزانچی کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۶۔ کنٹرولر امتحانات۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط پر کنٹرولر امتحانات کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) کنٹرولر امتحانات کے عہدہ پر تقرر کے لئے کم از کم ضروری تعلیمی قابلیت وہ ہوگی جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۳) کنٹرولر امتحانات ادارہ کا کل وقتی افسر ہو گا اور تمام معاملات جو کہ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ہوں اور ایسے دوسرے فرائض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گا جیسا کہ مقررہ ہوں:

(۴) کنٹرولر امتحانات کی تقرری قابل تجدید عرصہ تین سال کے لئے ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے پر بورڈ آف گورنرز کنٹرولر امتحانات کو مقررہ طریقہ کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر کنٹرولر امتحانات کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۷۔ ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکیٹ کی سفارش پر مقررہ قیود و شرائط

کے مطابق تین سال کی مدت کے لئے (ایک دفعہ کے لئے قابل توسیع) ادارہ کے ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کی اسامی کے لئے تعلیمی اور پیشہ وارانہ قابلیت اور کم سے کم تجربہ، جو ضروری ہو،

مقرر کیا جائے۔

(۳) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی، منصوبہ بندی و ترقی سے منسلک تمام معاملات کا ذمہ دار ہو گا اور مقرر کردہ مذکورہ دیگر فرائض منصبی سرانجام دے گا۔

(۴) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی:

- (i) ادارہ کی انتظامیہ رپورٹ آف گورنرز کی جانب سے وضع کردہ وژن، اہداف اور ترجیحات کے حصول کے لئے ترقیاتی پروگرامات اور قلیل اور طویل المدتی منصوبے تیار کرے گا؛
- (ii) جامع نظر ثانی، جائزہ اور منصوبہ بندی و ترقی کے طریقہ کار (منصوبے کی نشاندہی، جائزہ، انتخاب، عمل درآمد اور نگرانی) اور میکنزم کے تجزیے کا انعقاد کرے گا؛
- (iii) صورتحال کے تجزیہ کے نتائج پر مبنی منصوبہ بندی و ترقی کے طریقہ ہائے کار اور میکنزم کو بہتر کرنے کے لئے حکمت عملی ترتیب دے گا؛
- (iv) ادارہ کے لئے پی سی-I اور ترقیاتی منصوبوں کے پروپوزلز میں تکنیکی معاونت فراہم کرے گا؛
- (v) پی سی-I، پی سی-II، پی سی-III، پی سی-IV اور پی سی-V تیار کرے گا؛
- (vi) کیش ورک اور سرگرمی کی منصوبہ بندی کی تیاری کرے گا؛
- (vii) سہ ماہی اخراجات کے گوشواروں کی تیاری کرے گا؛
- (viii) ماہانہ اور سہ ماہی پیش رفت رپورٹوں کی تیاری کرے گا؛
- (ix) ورکس، خریداری، اسٹوریونٹس اور اکاؤنٹس کو مربوط بنائے گا؛
- (x) مختلف معطیان کو رپورٹیں، منصوبے اور پراجیکٹس سے مطلع / پیش کرے گا؛

(۵) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکیٹ کے مشورہ / سفارشات پر ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کی سروس کو مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر ختم کر سکتا ہے۔

۱۸۔ ڈائریکٹر، کیو ای سی (معیار بہتر بنانے کا سیل)۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکیٹ کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق تین سال کی قابل توسیع مدت کے لئے ادارہ کے معیار کو بہتر بنانے کے شعبہ (کیو ای سی) کے ڈائریکٹر کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) معیار کو بہتر بنانے کے شعبہ (کیو ای سی) کے ڈائریکٹر کی اسامی کے لئے ضروری تعلیمی اور پیشہ وارانہ قابلیت اور کم سے کم تجربہ، ایسے ہوں گے، جو مقرر کئے جائیں؛

(۳) ڈائریکٹر، کیو ای سی درج ذیل کا ذمہ دار ہو گا:

- (i) ہر متعلقہ شعبہ میں تدریس اور تعلیم کے معیارات پر نظر ثانی؛
- (ii) پروگراموں کے معیارات اور کوالٹی کے مؤثر انتظام کے حوالے سے دیگر اداروں کے ساتھ اکیڈمک رابطہ پر نظر ثانی؛

- (iii) نظر ثانی کے لئے حوالہ نکات، جو ہونی ہے، کے واضح معیارات اور وضاحت۔ اس سے ملازمین کو بھی مدد حاصل ہوگی کہ وہ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ امیدواروں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؛
- (iv) قابلیتوں کا فریم ورک تیار کرنا جس میں خوبیاں اور صلاحیتیں شامل ہوں جس میں قابلیت کے حامل فرد سے توقع کی جاسکتی ہو، یعنی گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ پروگرامات؛
- (v) پروگراموں کی تخصیصات تیار کرنا یعنی وہ معلومات کے مقررہ معیارات جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کامیابی سے خصوصی پروگرام مکمل کرنے پر طالب علم سے کون سی معلومات، شعور، مہارت اور دیگر خصوصیات حاصل کی ہیں؛
- (vi) معیار کو بہتر بنانے اور تشخیص کے طریقہ ہائے کار مرتب کرنا جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ معیارات برقرار ہوں اور مضامین اور عملہ کی ترقی کے لئے تحقیق اور دیگر علمی سرگرمیوں کے ساتھ اعلیٰ قسم کا نصاب تیار ہو سکے؛
- (vii) اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ادارہ کے معیارات کے طریقہ ہائے کار، اعلیٰ تعلیمی معیار میں بہتری اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس کو برقرار رکھنے کی مطابقت میں بنائے گئے ہیں؛
- (viii) حسب ذیل کے لئے معیارات، تشخیص نظام، نگرانی اور طریقہ کار وضع کرنا؛
- (الف) نئے پروگرام کی منظوری
- (ب) سالانہ نگرانی و تشخیص بشمول پروگرام کی نگرانی، فیکٹی کی نگرانی اور طلبہ کی فراست
- (ج) محکمہ جاتی نظر ثانی
- (د) طلبہ کا فیڈ بیک
- (ه) آجر کا فیڈ بیک
- (و) انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور ڈاکٹرل پروگراموں کے معیار میں بہتری
- (ز) ادارہ جاتی اور کارکردگی جائزہ
- (ح) ادارہ جاتی اور کارکردگی جائزہ
- (ط) قابلیت کا فریم ورک
- (ix) ڈائریکٹر، کیو ای سی تمام قانونی اداروں / ادارہ کی کمیٹیز کارکن ہوگا؛
- (۴) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکیٹ کے مشورہ / سفارشات پر مقررہ طریقہ کار کے تحت معیار کو ڈائریکٹر، کیو ای سی کی سرسز کو نااہلی یا غلط روی کی بنیاد پر ختم کر سکتا ہے۔

(۲) ڈائریکٹر (او آر آئی سی) کی اسامی پر تقرری کے لئے ضروری تعلیمی و پیشہ وارانہ قابلیت اور کم سے کم تجربہ ایسے ہوں گے جو مقرر کئے جاسکتے ہوں۔

(۳) ڈائریکٹر (او آر آئی سی) درج ذیل امور سرانجام دے گا:-

(i) ادارے کی تحقیقی سرگرمیوں کا انتظام کرنا اور ان کو فروغ دینا، تحقیقی پالیسیاں اور ترجیحات وضع کرنا، تحقیق کی بابت فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنا، فیکٹی، کاروباری برادر کا اور صنعت کو تحقیق تجارتی پیمانے پر استوار کرنے کے لیے متحرک کرنا، اور یونیورسٹی / ادارے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز اور معاونین کی وسیع تر برابری کے ساتھ مل کر تحقیق کرنے کے لیے ایک مؤثر داعی کا کردار ادا کرنا۔

(ii) تحقیق کے انتظام (بجٹ سازی، آڈیٹنگ، حسابات، انسانی وسائل، سہولیات اور ساز و سامان کا انتظام و دیکھ بھال، تحقیق کے معاہدوں پر عملدرآمد اور انسانی وسائل) سمیت دفتر برائے تحقیق کے آپریشن کے تمام پہلوؤں کی نگرانی کرنا؛

(iii) ایسے پروگرام اور پالیسیاں تشکیل دینا جو تمام سرکاری و نجی ذرائع سے فنڈ میں اضافہ کریں، مخیر حضرات اور نجی ذرائع کے ساتھ شاندار تعلقات قائم اور استوار کرنا، تجاویز کی تیاری اور انہیں پیش کرنے کے عمل کی نگرانی کرنا؛

(iv) ادارے کی تحقیق کی حمایت میں سرکاری و نجی شراکت داری کو فروغ دینا؛ ادارے کی تحقیقی برادری کو کارپوریٹ سیکٹر کی ضروریات اور ترجیحات سے متصل کرنا، عملی تحقیق کے لیے مواقع پیدا کرنا اور ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ادارے کی تحقیق (بشمول انکیوبیٹرز اور ریسرچ پارکس) کو تجارتی پیمانے پر استوار کرنے کے مواقع تلاش کرنا۔

(v) لائسنسوں کے ضمن میں رائلٹی وصول کرنے کی ذمہ داری؛ ادارے کے بے آئی پی کو دیگر متعلقہ محکمے اور دفاتر کے تعاون سے تجارتی خطوط پر استوار کرنے کی بابت تکنیکی مہنگے اور لائسنسنگ کے لیے اعلیٰ رابطہ کار کے ساتھ مل کر کام کرنا؛

(vi) دفتر برائے تحقیق و ترقی، منصوبہ بندی و ترقی اور ادارے کے ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔

(۴) سینڈ کیٹ کی سفارش / ہدایت پر بورڈ آف گورنرز ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر ڈائریکٹر (او آر آئی سی)

کی سروسز کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق ختم کر سکتا ہے۔

باب ۳

ادارہ کی اتھارٹیز

۲۰۔ اتھارٹیز۔ (۱) ادارے کی درج ذیل اتھارٹیز ہوگی، یعنی:-

(الف) ایکٹ ہذا کے ذریعے تشکیل کردہ اتھارٹیز:-

(i) بورڈ آف گورنرز

(ii) سینڈیکیٹ؛ اور

(iii) تعلیمی کونسل؛

(ب) قوانین موضوعہ کے ذریعے تشکیل کی جانے والی اتھارٹیز،-

(i) مجلس برائے جدید مطالعات و تحقیق؛

(ii) مجلس مطالعات؛

(iii) سلیکشن بورڈ؛

(iv) مالیات و منصوبہ بندی کمیٹی؛

(v) وائس چانسلر کی تقرری کی بابت سرچ کمیٹی؛

(vi) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کی تقرری کے لیے نمائندہ کمیٹیاں؛

(vii) معیار یقینی بنانے کی کمیٹی؛ اور

(viii) کمیٹی برائے نظم و ضبط؛

(۲) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل ایسی دیگر کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں، انہیں جو بھی نام دیا جائے،

تشکیل دے سکتے ہیں جو قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے بنانا مقصود ہوں۔ یہ کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں ایکٹ ہذا کی اغراض کے لیے

ادارے کی اتھارٹیز ہوں گی۔

۲۱۔ بورڈ آف گورنرز۔ (۱) ادارے کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ دار ہیئت بورڈ آف گورنرز کہلائے گی، جو

درج ذیل پر مشتمل ہوگا، یعنی:-

(الف) چانسلر، جو بورڈ آف گورنرز کا چیئر پرسن ہوگا؛

(ب) وائس چانسلر؛

(ج) پرووائس چانسلر؛

(د) ایک حکومتی رکن، جو متعلقہ وزارت یا بالخصوص اس ادارے سے متعلقہ کسی دیگر محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری کے

عہدے سے کم کا نہ ہو؛

(۵) معاشرے سے مجموعی طور پر چار افراد، ترجیحاً دو یا کم از کم ایک خاتون، جو انتظامیہ، انتظام و انصرام، تعلیم، قانون، حسابات، طلب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہوں اور ان افراد کی تقرری مختلف شعبوں میں توازن کی عکاس ہو؛

(۶) ادارے کے سابق طلباء میں سے ایک فرد؛

(۷) ادارے کے ملازم کے علاوہ ملک کی تعلیمی برادری سے دو افراد، جو کسی کالج کے پروفیسر یا پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوں؛

(۸) ادارے کے چار اساتذہ (ہر عہدے میں سے ایک، یعنی پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار؛

(۹) کمیشن کی جانب سے نامزد کردہ ایک فرد؛

(۱۰) ادارہ برائے انتظام و ٹیکنالوجی (آئی ایم ٹی) کی جانب سے نامزد کردہ دو افراد۔

(۱۱) ذیلی دفعہ (۱) کی شق (۱) تا (۷) کے ضمن میں صراحت کردہ بورڈ آف گورنرز کے ارکان کی تعداد اس شرط

کے تحت بذریعہ قوانین موضوعہ آف گورنرز بڑھا سکے گا کہ بورڈ آف گورنرز کی کل رکنیت ایکس سے تجاوز نہ کرے، جس میں زیادہ سے زیادہ پانچ انسٹیٹیوٹ اساتذہ ہوں، اور یہ اضافہ ذیلی دفعہ (۱) میں صراحت کردہ مختلف کیٹیگریوں سے ممکنہ حد تک متوازن کیا جائے۔

(۱۲) بورڈ آف گورنرز میں تمام تقرریاں چانسلسر کرے گا۔ ذیلی دفعہ (۱) کی شق (۱) تا (۷) میں مصرحہ افراد کی

تقرریاں نمائندگی کمیٹی کی جانب سے سفارش کردہ ہر ایک اسمی کے لیے تین ناموں کے پینل میں سے کی جائیں گی، جس کی دفعہ ۲۸ کے لحاظ سے تشکیل ہوئی ہو اور ایسا طریق کار کے مطابق ہوگا، جیسا کہ مقررہ ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ خواتین کو معیار یا قابلیت پر مصالحت کئے بغیر بورڈ آف گورنرز میں موزوں نمائندگی دینے کی کوششیں کی جائے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں تک ذیلی دفعہ (۱) کی شق (۸) میں مصرحہ انسٹیٹیوٹ اساتذہ کا تعلق ہے، بورڈ آف گورنرز، انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی مختلف کیٹیگریوں کی جانب سے رائے دہی کے لیے انتخابات کی بنیاد پر تقرر کے لیے طریق کار وضع کرے گا۔ مگر یہ بھی شرط ہے کہ بورڈ آف گورنرز متبادل طور پر تجویز کرے کہ بورڈ آف گورنرز میں انسٹیٹیوٹ اساتذہ کا تقرر بھی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (۱) تا (۷) میں صراحت کردہ افراد کے لیے ذیلی دفعہ (۱) کے ذریعے فراہم کردہ طریق کار سے ہوگا۔

(۱۳) بورڈ آف گورنرز کے ارکان، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، تین سال کے لیے عہدے پر مامور ہوں گے۔ پہلے

بورڈ آف گورنرز کے ایک تہائی ارکان، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، جن کا قرضہ اندازی کے ذریعے انتخاب ہوگا، چانسلسر کی جانب سے تاریخ تقرر سے ایک سال پورا ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ پہلے بورڈ آف گورنرز کے باقی ماندہ ارکان کا نصف، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، جن کا قرضہ اندازی کے ذریعے انتخاب ہوگا، تاریخ تقرر سے دو سال کی مدت پوری ہونے پر

عہدے سے سبکدوش ہوں گے اور ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، باقی ماندہ نصف، تیسرے سال کے اختتام پر عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔

مگر شرط یہ ہے کہ رکن بلحاظ عہدہ کے علاوہ، کوئی فرد عہدے کی دو مسلسل میعادوں سے زائد کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکتا۔

مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز میں ادارہ کے تقریباً ساڑھے دو مسلسل میعادوں سے زائد خدمات سرانجام نہیں دے سکیں گے۔

(۵) بورڈ آف گورنرز کا ایک تقویمی سال میں کم از کم دو بار اجلاس ہوگا۔

(۶) بورڈ آف گورنرز میں ملازمت اعزازی بنیاد پر ہوگی۔ تاہم، اصل اخراجات کی باز ادائیگی کی جاسکتی ہے، جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۷) رجسٹرار بورڈ آف گورنرز کا سیکرٹری ہوگا۔

(۸) چانسلر کی غیر موجودگی میں بورڈ آف گورنرز کے اجلاسوں کی صدارت ایسا رکن کرے گا، جو کہ ادارہ یا حکومت کا ملازم نہ ہو، جیسا کہ چانسلر و قنائن نامزد کرے۔ ایسے نامزد کردہ رکن بورڈ آف گورنرز کا کنوینر ہوگا۔

(۹) بجز اس کے کہ ایکٹ ہذا کے ذریعے کچھ اور مقررہ ہو، بورڈ آف گورنرز کے تمام فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کی رائے سے لیے جائیں گے۔ اگر کسی معاملے پر ارکان کی رائے برابر منقسم ہو، تو اجلاس کی صدارت کرنے والا فرد ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔

(۱۰) بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا کورم اس کی رکنیت کا دو تہائی ہوگا، جس کی کس ایک شمار کی جائے گی۔

۲۲۔ بورڈ آف گورنرز کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کو ادارے کے عمومی نگرانی کا اختیار ہوگا اور ادارے کے تمام کارہائے منصبی کے حوالے سے وائس چانسلر اور اتھارٹیز کو جوابدہ ٹھہرا سکے گا۔ بورڈ آف گورنرز ادارے کے ایسے تمام اختیارات کا حامل ہوگا جو کہ بذریعہ ایکٹ ہذا اتھارٹی یا افسر کو صراحتاً نہیں دیئے گئے اور تمام ایسے دیگر اختیارات جو ایکٹ ہذا میں صراحتاً مذکورہ نہیں اور اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوں۔

(۲) مذکورہ اختیارات کو عمومیت پر اثر انداز ہونے بغیر بورڈ آف گورنرز کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:-

(الف) مجوزہ سالانہ لائحہ عمل، سالانہ اور ترمیم شدہ بجٹوں، سالانہ رپورٹ اور سالانہ کیفیت نامہ حساب کی منظوری دینا؛

(ب) غیر منقولہ املاک کی فروخت اور خریداری یا حصول سمیت ادارے کی ملکیت، فنڈز اور سرمایہ کاریوں کے انتظام کے لیے پالیسی وضع، برقرار اور اس کی نگرانی کرنا؛

(ج) ادارے کے تعلیمی پروگراموں کے معیار اور موزونیت کی نگرانی کرنا اور تعلیمی معاملات کا جائزہ لینا؛

- (د) ڈیز، پروفیسرز، ایسوسی ایٹ پروفیسرز اور ایسے دیگر سینئر فیکلٹی اور سینئر منتظمین کے تقرر کی منظوری دینا جیسا کہ مقررہ ہو؛
- (ه) تمام افسران، اساتذہ اور ادارے کے دیگر ملازمین کی تقرر کی قیود و شرائط کے لئے اسکیمیں، ہدایات اور رہنما اصول قائم کرنا؛
- (و) تزویراتی منصوبوں کی منظوری دینا؛
- (ز) ادارے کے مالیاتی وسائل کی ترقی کے منصوبوں کی منظوری دینا؛
- (ح) سینڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کی جانب سے مجوزہ قوانین موضوعہ اور ضوابط کے مسودوں کو زیر غور لانا اور جیسی صورت ہو، دفعات ۳۱ اور ۳۲ میں مصرحہ طریق کار سے ان پر کارروائی کرنا۔
- مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز اپنے از خود اقدام سے قانون موضوعہ یا ضابطہ وضع کر سکے گا اور سینڈیکیٹ یا اکیڈمک کونسل، جو بھی صورت ہو، کی ہدایت کے مطالبے کے بعد اس کی منظوری دے سکے گا؛
- (ط) کسی اتھارٹی یا افسر کی کارروائیوں کو تحریری حکم کے ذریعے منسوخ کرنا اگر بورڈ آف گورنرز مطمئن ہو کہ وہ کارروائیاں ایکٹ ہذا، قوانین موضوعہ یا ضوابط کی تصریحات کے مطابق نہیں ہیں، اس اتھارٹی یا افسر کو طلب کرنے کے بعد کہ وہ وجوہات بنائے کہ ان کارروائیوں کو کیوں نہ کالعدم قرار دیا جائے؛
- (ی) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق بورڈ آف گورنرز کے کسی رکن کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لئے چانسلر کو سفارش کرنا؛
- (ک) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ سینڈیکیٹ کے اراکین کی تقرر کرنا؛
- (ل) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ تعلیمی کونسل کے اراکین کی تقرر کرنا؛
- (م) مجوزہ قیود و شرائط کے مطابق اعزازی پروفیسروں کی تقرر کرنا؛
- (ن) کسی شخص کی کسی اتھارٹی سے رکنیت ختم کرنا اگر وہ شخص:
- (i) ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو؛ یا
- (ii) اس اتھارٹی کے رکن کی حیثیت سے فرائض سرانجام دینے کے قابل نہ رہا ہو؛ یا
- (iii) اخلاقی گراؤٹ سے متعلق کسی جرم میں عدالت سے سزا یافتہ ہو جائے؛ اور
- (س) ادارے کی مشترکہ مہر کی ہیئت کا تعین کرنا، اسے اپنے پاس رکھنے کے لئے احکام وضع کرنا اور اس کے استعمال کو منضبط کرنا۔

(۳) بورڈ آف گورنرز، ایکٹ ہذا کی تصریحات کے تحت، ادارے کے مرکزی کیمپس میں کسی اتھارٹی، افسر یا ملازم کو تمام یا کوئی بھی اختیارات و فرائض اس ادارے کے اضافی کیمپس میں کسی اتھارٹی، کمیٹی، افسر یا ملازم کو تفویض کر سکتا ہے تاکہ وہ اس اضافی کیمپس سے متعلق اختیارات استعمال کرے اور فرائض سرانجام دے، اور اس مقصد کے لئے بورڈ آف گورنرز اضافی کیمپس میں نئی اسامیاں اور عہدے تخلیق کر سکتا ہے۔

۲۳۔ معائنہ۔ بورڈ آف گورنرز مجوزہ قیود و طریق ہائے کار کے مطابق ادارہ سے منسلک کسی معاملہ میں معائنہ کروائے گا۔

۲۴۔ سینڈیکیٹ۔ (۱) ادارے کی سینڈیکیٹ حسب ذیل پر مشتمل ہوگی:-

- (الف) وائس چانسلر جو کہ اس کا چیئر پرسن ہوگا؛
- (ب) پرو وائس چانسلر؛
- (ج) ادارے کے شعبہ جات کے ڈینز؛
- (د) مختلف شعبوں سے تین پروفیسر، جو بورڈ کے اراکین نہ ہوں، کو بورڈ کی جانب سے مقررہ طریقہ کار کے مطابق ادارہ کے اساتذہ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا؛
- (ه) ذیلی کالجوں ریونٹوں کے پرنسپل؛
- (و) رجسٹرار؛
- (ز) ڈائریکٹر (کیو ای سی)؛
- (ح) ڈائریکٹر (او آر آئی سی)؛
- (ط) ڈائریکٹر (پی اینڈ ڈی)؛
- (ی) خزانچی؛ اور
- (ک) کنٹرولر امتحانات؛

(۲) سینڈیکیٹ کے اراکین، ماسوائے اراکین بلحاظ عہدہ، تین سال تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

(۳) جہاں تک ذیلی شق (۱) کی شق (د) میں مذکور تین پروفیسروں کا تعلق ہے، بورڈ آف گورنرز انتخابات کے لئے متبادل طور پر دفعہ ۲۸ کے تحت قائم کردہ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے ناموں کے پینل کی تجویز کے لئے طریق کار وضع کرے گا۔ وائس چانسلر کی سفارش پر نمائندہ کمیٹی کی جانب سے تجویز کردہ افراد کی تقرری بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کی جائے گی۔

(۴) سینڈیکیٹ کے اجلاس کا کورم کل اراکین کا نصف ہوگا، کسر کو ایک سمجھا جائے گا۔

(۵) سینڈیکیٹ کا اجلاس سال کی ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک مرتبہ منعقد ہوگا۔

۲۵۔ سینڈیکیٹ کے اختیارات و فرائض۔ (۱) سینڈیکیٹ ادارے کی مجلس منظمہ ہوگی اور ایکٹ ہذا کی تصریحات اور قوانین موضوعہ کے تحت ادارے کے امور اور انتظامات کی عمومی نگرانی کرے گی۔

(۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، اور اس ایکٹ کے احکامات کے تابع، قوانین موضوعہ اور بورڈ آف گورنرز کی ہدایات کے مطابق، سینڈیکیٹ کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:-
(الف) سالانہ رپورٹ اور سالانہ اور نظر ثانی شدہ بجٹ کے تخمینہ جات پر غور کرنا اور انہیں بورڈ کے سامنے پیش کرنا؛

(ب) ادارہ کی ایماں پر منقولہ جائیداد کو منتقل کرنا اور اس کی منتقلی کو قبول کرنا؛

(ج) ادارہ کی ایماں پر معاہدات کرنا، تبدیل کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا اور انہیں منسوخ کرنا؛

(د) ادارہ کی جانب سے وصول کردہ اور صرف شدہ تمام رقوم اور یونیورسٹی کے اثاثہ جات اور وجوب کے لئے مناسب بھی کھاتے تیار کرنا؛

(ه) ادارہ سے متعلقہ کسی رقم بشمول ٹرسٹ ایکٹ، ۱۸۸۲ء (ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۸۸۲ء) کی دفعہ ۲۰ میں وضع کردہ تمسکات میں سے یا غیر منقولہ جائیداد کی خریداری یا ایسے دیگر مقررہ طریقے سے حاصل ہونے والی غیر مستعمل آمدن کی سرمایہ کاری کرنا جس کے لئے مذکورہ مختلف سرمایہ کاریوں کا اختیار ہو۔

(و) ادارہ کے لئے منتقل کی گئی کوئی جائیداد، گرانٹس، وصیتیں، ٹرسٹ، ہبہ جات، عطیہ جات، اوقاف اور دیگر حصہ جات کا حاصل کرنا اور ان کا انتظام و انصرام کرنا؛

(ز) ادارے کے کسی خاص مقصد کے لئے دیئے گئے کسی بھی فنڈ کا انتظام کرنا؛

(ح) یونیورسٹی کو فرائض منصبی کی بجا آوری کے لئے عمارتوں، کتب خانوں، حدود عمارت، فرنیچر، آلات ساز و سامان اور دوسرے وسائل فراہم کرنا؛

(ط) طالب علموں کے رہائشی کمروں اور ہوسٹلوں کا قیام، ان کا انتظام کرنا یا ہوسٹلوں یا قیام گاہوں کی منظوری یا لائسنس دینا؛

(ی) بورڈ آف گورنرز کو تعلیمی اداروں میں ادارے کی مراعات پر داخلے اور مذکورہ مراعات کو واپس لینے کی سفارش کرنا؛

(ک) کالج، سکولز اور شعبہ جات کے معائنے کے لئے انتظام کرنا؛

(ل) پروفیسر شپ، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپ، اسٹنٹ پروفیسر شپ، لیکچرار شپ اور دیگر تدریسی آسامیوں کو پیدا کرنا یا مذکورہ آسامیوں کو معطل کرنا یا ختم کرنا؛

- (م) ایسی انتظامی یا دوسری آسامیاں جو کہ ضروری ہوں پیدا کرنا یا معطل کرنا یا ختم کرنا؛
- (ن) ادارے کے افسران، اساتذہ اور دوسرے ملازمین کے فرائض منصبی کا تعین کرنا؛
- (س) بورڈ آف گورنرز کو ان معاملات کی رپورٹ دینا جن کے متعلق اس کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہو؛
- (ع) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق مختلف ہئیت ہائے مجاز کے اراکین کی تقرری کرنا؛
- (ف) بورڈ آف گورنرز میں پیش کرنے کے لئے قوانین موضوعہ کے مسودات تجویز کرنا؛
- (ص) ادارہ کے طلباء کے چال چلن اور نظم و ضبط کو منضبط کرنا؛
- (ق) ادارہ کے اچھے انتظام کے لئے ایسے عمومی عوامل کے لئے ضروری کارروائی کرنا اور اس کے لئے ایسے ضروری اختیارات استعمال کرنا؛
- (ر) کسی بھی ہئیت ہائے مجاز، افسر یا کمیٹی کو اپنا کوئی اختیار تفویض کرنا؛ نیز
- (ش) ایسے دوسرے کارہائے منصبی انجام دینا جو اس ایکٹ کے احکامات کے ذریعے سے کئے گئے ہوں یا قوانین موضوعہ کے ذریعے تفویض کئے جائیں۔

۲۶۔ تعلیمی کونسل۔ (۱) ادارہ کی تعلیمی کونسل حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔

- (الف) وائس چانسلر۔ کا چیئر پرسن ہوگا؛
- (ب) پرووائس چانسلر (انتظام و مالیات)؛
- (ج) پرووائس چانسلر (تعلیم و تحقیق)؛
- (د) فیکلٹی ڈین اور شعبوں کے ایسے سربراہ جیسا کہ مقرر کیا جائے؛
- (ه) شعبہ جات، انسٹیٹیوٹ اور ذیلی اسکولز کی نمائندگی کرنے والے پانچ اراکین کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ انداز کے مطابق کیا جائے گا؛
- (و) پانچ پروفیسرز بشمول اعزازی پروفیسرز؛
- (ز) رجسٹرار؛
- (ح) ڈائریکٹر (کیو ای سی)؛
- (ط) ڈائریکٹر (کیو آر آئی سی)؛
- (ی) کنٹرولر امتحانات؛ اور
- (ک) لائبریرین۔

(۲) بورڈ آف گورنرز، وائس چانسلر کی سفارش پر رکن بلحاظ عہدہ اور منتخب اراکین کے علاوہ تعلیمی کونسل کے

اراکین کی تقرری کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ پانچ پروفیسرز اور شعبہ جات، انسٹیٹیوٹ اور ذیلی اسکولوں کے نمائندہ اراکین کے ضمن میں بورڈ آف گورنرز متبادل انتخاب کے طور پر دفعہ ۲۸ کی رو سے قائم کی گئی نمائندہ کمیٹی کی جانب سے ناموں کے ایک پینل کی تجویز کے لئے طریقہ کار تجویز کر سکتا ہے۔ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے تجویز کردہ افراد کی تقرری و انس چانسلر کی سفارش پر بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کی جائے گی۔

(۳) تعلیمی کونسل کے اراکین کے عہدے کی مدت تین سال ہوگی۔

(۴) تعلیمی کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک دفعہ اجلاس کا انعقاد کرے گی۔

(۵) تعلیمی کونسل کے اجلاس کا کورم اس کے اراکین کی کل تعداد کا نصف ہوگا، کسر بطور ایک شمار ہوگی۔

۲۷۔ تعلیمی کونسل کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ (۱) تعلیمی کونسل انسٹیٹیوٹ کا بنیادی تعلیمی ادارہ ہوگی

اور ایکٹ ہذا کی تصریحات اور قوانین موضوعہ سے مشروط ہوگی، اس کے پاس ہدایات، تحقیق اور امتحانات کے باقاعدہ معیارات وضع کرنے اور انسٹیٹیوٹ اور اسکولز کی تعلیمی زندگی کو منضبط کرنے اور فروغ دینے کا اختیار ہوگا۔

(۲) بالا اختیارات کی عمومیت سے امتیاز برتتے بغیر اور ایکٹ ہذا اور قوانین سے مشروط، تعلیمی کونسل کو حسب ذیل

اختیارات حاصل ہوں گے:

(الف) تعلیمی پروگراموں کے معیار سے متعلق پالیسی و طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛

(ب) تعلیمی پروگراموں کی منظوری دینا؛

(ج) داخلہ، اخراج، سزاؤں، امتحانات اور اسناد سمیت طلباء کے امور ہائے کار کی بابت پالیسی اور طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛

(د) تدریس اور تحقیق کے معیار کو یقینی بنانے والی پالیسی اور طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛

(ه) فیکلٹیز، تدریسی شعبوں اور بورڈ آف اسٹڈیز کی تشکیل و تنظیم کے لئے سنڈیکیٹ اسکیموں کی منظوری دینا؛

(و) متعلقہ حکام سے ناموں کے پینل موصول ہونے کے بعد انسٹیٹیوٹ کے تمام امتحانات کے لئے ممتحن اور پیپر بنانے والوں کی تقرری کرنا؛

(ز) تمام سطح پر انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لئے پروگرام تشکیل دینا؛

(ح) دیگر یونیورسٹیوں کے امتحانات یا امتحانات لینے والے اداروں کو انسٹیٹیوٹ کے متعلقہ امتحانات کے مساوی تسلیم کرنا؛

(ط) طلباء کے ایوارڈ، وظائف، نمائشوں، تمغے اور انعامات کو منضبط بنانا؛

(ی) بورڈ آف گورنرز کو جمع کروانے کے لئے ضوابط وضع کرنا؛

(ک) انسٹیٹیوٹ کی تعلیمی کارکردگی پر سالانہ رپورٹ تیار کرنا؛ اور

(ل) ضوابط کے ذریعے تجویز کئے جانے والے امور ہائے کار سرانجام دینا۔

۲۸۔ نمائندہ کمیٹیاں۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قانون موضوعہ کے ذریعے ایک نمائندہ کمیٹی

تشکیل دی جائے گی جس کا مقصد دفعہ ۲۱ کی تصریحات کی روشنی میں بورڈ آف گورنرز کے لئے افراد کی تقرری کی سفارش کرنا ہوگا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قانون موضوعہ کے ذریعے ایک نمائندہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا مقصد

دفعہ ۲۵ اور ۲۷ کی تصریحات کی روشنی میں سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کے لئے افراد کی تقرری کی سفارش کرنا ہوگا۔

(۳) بورڈ آف گورنرز کی تقرری کے لئے نمائندہ کمیٹی کے اراکان حسب ذیل پر مشتمل ہوں گے:-

(الف) بورڈ آف گورنرز کے تین اراکین جو انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ ہوں؛

(ب) انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی جانب سے مقررہ انداز میں اپنے درمیان سے نامزد کردہ دو افراد؛

(ج) تعلیمی کمیونٹی سے ایک فرد جو کہ پروفیسر یا اسکول پرنسپل کی سطح پر انسٹیٹیوٹ کا ملازم نہ ہو، کو

انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی جانب سے مقررہ انداز میں نامزد کیا جائے گا؛ اور

(د) انتظامیہ، فلاحی کام، ترقیاتی کام، قانون یا اکاؤنٹنسی میں تجربہ کے حامل ایک معروف شہری کو بورڈ

آف گورنرز کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔

(۴) سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کی تقرری کے لئے نمائندہ کمیٹی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی:

(الف) بورڈ آف گورنرز کے دو اراکین جو انسٹیٹیوٹ اساتذہ نہ ہوں؛ نیز

(ب) انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی جانب سے اپنے درمیان سے مقررہ انداز میں نامزد کردہ تین افراد؛

(۵) نمائندہ کمیٹیوں کی مدت تین سال ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی رکن بھی مسلسل دو بار سے زائد مدتوں کے لئے خدمات انجام نہیں دے گا۔

(۶) نمائندہ کمیٹیوں کے طریق ہائے کار ایسے ہوں گے جیسا کہ مقرر کئے جائیں۔

(۷) انسٹیٹیوٹ کی دیگر اتھارٹیز کی جانب سے قائم کی جانے ایسی دیگر نمائندہ کمیٹیاں بھی ہوں گی جیسا کہ مختلف

اتھارٹیز اور انسٹیٹیوٹ کے دیگر اداروں میں تقرری کے لئے افراد کی سفارش کرنے کی بابت موزوں خیال کیا جائے۔

۲۹۔ بعض اتھارٹیوں کی جانب سے کمیٹیوں کی تقرری۔ (۱) بورڈ آف گورنرز، سنڈیکیٹ، تعلیمی کونسل اور

دیگر اتھارٹیز و قنوقنایا ایسی قائمہ، خصوصی یا مشاورتی کمیٹیوں کی تقرری کر سکتی ہیں جو وہ مناسب خیال کریں اور مذکورہ کمیٹیوں میں

ایسے افراد رکھ سکتی ہیں جو کمیٹیاں تقرر کرنے والی اتھارٹیوں کے اراکین نہ ہوں۔

(۲) اتھارٹیز کا دستور، کارہائے منصبی اور اختیارات جن کے لئے ایکٹ ہذا میں کوئی مخصوص صراحت نہ کی گئی ہو،

قوانین موضوعہ یا ضوابط میں تجویز کردہ کے مطابق ہوں گے۔

باب ۵

قوانین موضوعہ، ضوابط و قواعد

۳۰۔ قوانین موضوعہ۔ (۱) ایکٹ ہذا کے تحت حسب ذیل تمام معاملات یا کسی بھی معاملے کو منضبط یا تجویز کرنے کے لئے قوانین موضوعہ وضع کئے جائیں گے:-

(الف) مواد اور طریقہ کار جس سے وائس چانسلر کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کو پیش کیے جانے کے لیے سالانہ رپورٹ تیار کی جائے گی؛

(ب) انسٹی ٹیوٹ کی فیس اور دیگر چارجز؛

(ج) انسٹی ٹیوٹ کے ملازمین کے لیے پنشن، انشورنس، گریجویٹی، پراویڈنٹ فنڈ اور بینوولنٹ فنڈ کی تشکیل؛

(د) افسران، اساتذہ اور انسٹیٹیوٹ کے دیگر ملازمین کا تنخواہ کا اسکیل اور ملازمت کی دیگر شرائط و قیود؛

(ه) رجسٹرڈ گریجویٹس کار جسٹریٹریٹ کے افسران؛

(و) انسٹی ٹیوٹ کے استحقاقات تعلیمی اداروں کو دینا اور ایسے استحقاقات کو واپس لینا؛

(ز) فیکلٹیز، شعبہ جات، اداروں، سکولز اور دیگر تعلیمی ڈویژنز کا قیام؛

(ح) افسران اور اساتذہ کے اختیارات و فرائض؛

(ط) شرائط جن کے تحت انسٹیٹیوٹ تحقیق و مشاوری خدمات کے لیے کسی دیگر ادارے یا کسی سرکاری اداروں کے ساتھ معاہدات کر سکتا ہے؛

(ی) اعزازی پروفیسروں کی تقرری اور اعزازی ڈگری دینے کی شرائط؛

(ک) انسٹی ٹیوٹ کے ملازمین کی کارکردگی و نظم و ضبط؛

(ل) ایکٹ ہذا کی شرائط کے تحت فرائض منصبی کی انجام دہی کے لیے نمائندہ کمیٹیوں کی جانب سے پیر ویکرنے کی بابت آئین و طریقہ کار؛

(م) وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی کی جانب سے پیروی کرنے کی بابت آئین و طریقہ کار؛

(ن) انسٹی ٹیوٹ کی اتھارٹیز کا دستور، فرائض منصبی و اختیارات، اور

(س) جملہ دیگر معاملات جو اس ایکٹ کے ذریعے تجویز یا قوانین موضوعہ کے ذریعے منضبط کئے جائیں گے یا کیے جا سکتے ہیں۔

(۲) سینڈیکیٹ قوانین موضوعہ کا مسودہ بورڈ آف گورنرز کو تجویز کرے گا جو کہ اسے ایسی ترامیم کے ساتھ منظور یا

پاس کر سکتا ہے جیسا کہ وہ مناسب تصور کرے یا سینڈیکیٹ کو مجوزہ مسودہ دوبارہ زیر غور لانے، جیسی بھی صورت ہو، کے لیے بھیج سکتا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعہ (ا) کی شقات (الف) اور (ل) میں بیان کردہ کسی معاملات سے متعلق قوانین موضوعہ کو سینڈیکیٹ کی آراء لینے کے بعد بورڈ آف گورنرز کی جانب سے پیش اور منظور کیا جائے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز اپنے دائرہ اختیارات میں آنے والے کسی معاملے کے حوالے سے کسی قانون کا آغاز کر سکتا ہے یا اس کے حوالے سے ایک ہذا کی شرائط کے تحت کوئی قانون وضع کر سکتا ہے اور سینڈیکیٹ کی آراء جانے کے بعد ایسے قانون کو منظور کر سکتا ہے۔

۳۱۔ ضوابط۔ (۱) ایک ہذا اور قوانین تصریحات کے تحت تعلیمی کونسل انسٹیٹیوٹ کے ضوابط، ڈگری کے لیے تعلیمی نصاب، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹس بنا سکتی ہے؛

(الف) دفعہ ۶ کی ذیلی دفعہ (ا) کے حوالے سے دیئے گئے طریقے سے تدریس کو منظم و ضبط کیا جائے گا؛

(ب) انسٹیٹیوٹ میں طالب علموں کا داخلہ اور اخراج؛

(ج) شرائط جن کے تحت طالب علم کورسز میں داخلہ اور انسٹیٹیوٹ کے امتحانات دے سکیں گے اور

ڈگریوں، ڈپلوموں اور سرٹیفکیٹوں کے اہل ہو سکیں گے؛

(د) امتحانات کا انعقاد؛

(و) شرائط جن کے تحت کوئی فرد ڈگری حاصل کرنے کے لیے آزادانہ تحقیق کر سکتا ہے؛

(و) فیلوشپس، اسکالرشپس، نمائشوں، میڈلز اور انعامات کا ادارہ؛

(ز) لائبریری کا استعمال؛

(ح) فیکلٹی، شعبہ جات اور مطالعات کے بورڈ کی تشکیل؛ اور

(ط) جملہ دیگر معاملات جو ایک ہذا قوانین کے ذریعے ضوابط کی رو سے تجویز کیے جائیں یا جاسکتے ہیں۔

مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی شقات (و) اور (ح) میں مذکور معاملات سے متعلق یا ان کے ضمنی ضوابط کو

سینڈیکیٹ کی پیٹنگی منظوری کے بغیر بورڈ آف گورنرز کو نہیں بھیجا جائے گا۔

(۲) قواعد تعلیمی کونسل کی جانب سے تجویز کیے جائیں گے اور بورڈ آف گورنرز کو بھیجے جائیں گے جو کہ انہیں منظور یا

منظوری کو روک یا دوبارہ غور کرنے کے لیے تعلیمی کونسل کو واپس بھیج سکتا ہے۔ تعلیمی کونسل کی جانب سے تجویز کردہ ضابطہ مؤثر

یہ عمل نہیں ہوگا جب تک بورڈ آف گورنرز اس کی منظوری نہ دے۔“

۳۲۔ قوانین موضوعہ و ضوابط کی ترمیم و ترمیم۔ قوانین موضوعہ و ضوابط میں شامل کرے، ترمیم کرنے یا منسوخ

کرنے کے لیے طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ قوانین موضوعہ اور ضوابط وضع کرنے یا بنانے کے لیے بالترتیب مجوز کیا گیا ہو۔

۳۳۔ قواعد۔ (۱) اتھارٹیز یا انسٹیٹیوٹ کی دیگر ہیئت ہائے مجاز ایکٹ، قوانین و ضوابط کے مطابق انسٹیٹیوٹ کے امور

سے متعلق کسی ایسے معاملے کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہیں جس سے متعلق ایکٹ ہذا میں صراحت نہ کی گئی یا جسے

قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے منضبط کرنے کی ضرورت نہ ہو جس میں کارروائی کے انعقاد کو منضبط کرنے اور اجلاسوں کے وقت و مقام اور متعلقہ معاملات کے قواعد شامل ہیں۔

(۲) قواعد سینڈیکٹ کی منظوری سے موثر ہو جائیں گے۔

باب ۶ انسٹی ٹیوٹ فنڈ

۳۴ انسٹی ٹیوٹ فنڈ:- انسٹی ٹیوٹ کا ایک فنڈ ہو گا جس میں فیسوں، وصولیوں، عطیات، ٹرسٹ، اوقاف،

عطیات، چندے، گرانٹس اور جملہ دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کو جمع کیا جائے گا۔

۳۵ آڈٹس و اکاؤنٹس:- (۱) انسٹی ٹیوٹ کے کھاتوں کو اس طرح اور ایسے طریقے سے سنبھالا جائے گا جیسا کہ تجویز کیا گیا ہو۔

(۲) تدریسی شعبہ جات، ذیلی کالج اور ادارے اور قوانین موضوعہ کی رو سے سینڈیکٹ کی جانب سے نامزد کردہ جملہ دیگر ادارے انسٹی ٹیوٹ کے خود مختار لاگتی مراکز ہونگے اور ہر لاگتی مرکز کے سربراہ کو اس کے مختص کردہ بجٹ میں سے خرچ کرنے کی بابت اجازت دینے کا اختیار حاصل ہو گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اخراجات کی ایک مد سے کسی دوسری مد میں باز تخصیص لاگتی مرکز کا سربراہ قوانین موضوعہ میں تجویز کردہ کے مطابق اور ان کی حد تک کر سکتا ہے۔

(۳) کنسلٹنسی، تحقیق یا دیگر کسی خدمات کی فراہمی کے ذریعے ادارے کے کسی تدریسی شعبے، منسلک کالج یا دیگر یونٹ کی جانب سے پیدا ہونے والے جملہ فنڈز کو، قانون کے ذریعے مجوزہ کردہ طرز اور مقرر کردہ حد میں اور ہیڈز کی کٹوتی کے بعد بصورت دیگر بجٹ کی تخصیص سے امتیاز برتے بغیر تدریسی شعبے، منسلک اسکول یا دیگر یونٹ کی ترقی کے لئے دستیاب ہوں گے۔ پیدا ہونے والے فنڈز کے کسی حصے کو قانون کے ذریعے مجوزہ کردہ طریقہ کار اور مقرر کردہ حد میں متعلقہ کنسلٹنسی، تحقیق یا خدمت کے صلے میں انسٹی ٹیوٹ کے اساتذہ یا تحقیق کے ساتھ بانٹا جاسکتا ہے۔

(۴) انسٹی ٹیوٹ کے فنڈز سے کوئی اخراجات نہیں کیے جائیں گے تاقتیکہ متعلقہ قوانین کے مطابق متعلقہ مالیتی مرکز کے سربراہ کی جانب سے اس کی ادائیگیوں کے لیے کوئی بل جاری کیا جائے اور خزانہ اس بات کی تصدیق کرے کہ رقم مالیتی مرکز کے منظور کردہ بجٹ میں سے کی گئی ہے جو کہ مالیتی مرکز کے مد میں باز تخصیص کی اتھارٹی سے مشروط ہے۔

(۵) ادارے کے مالیات کے اندرونی آڈٹ کا انتظام کیا جائے گا۔

(۶) تقررہ کردہ کسی آڈیٹر کی جانب سے آڈٹ کے تقاضوں سے بغیر کسی تعصب کے، انسٹی ٹیوٹ کے اکاؤنٹس کا

سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی مشہور فرم کی جانب سے عمومی طور پر منظور کردہ اکاؤنٹنگ اصولوں (جی اے اے پی) کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا جائے گا اور خزانچیوں کی جانب سے اس پر دستخط کئے جائیں گے۔

(۷) آڈیٹر کے اعتراضات، اگر کوئی ہوں، کو خزانچی کی جانب سے پیش کی گئی وضاحتوں کے ساتھ سینیڈ کیٹ کی جانب سے زیر غور لایا جائے گا اور مالی سال کے اختتام کے چھ ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

باب ۷

عمومی تصریحات

۳۶۔ اظہار وجوہ کا موقع۔ بجز اس کے کہ قانون میں کچھ اور مذکور ہو، کسی بھی افسر، استاد یا مستقل عہدے پر فائز ادارے کے دیگر ملازم کی عہدے میں تنزیلی نہیں کی جائے گی، یا متعلقہ شخص کے کسی فعل یا کوتاہی کی بنیاد پر جبری طور پر ملازمت سے ریٹائر نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ اسے مجوزہ کارروائی کے خلاف اظہار وجوہ کا مناسب موقع نہ دیا گیا ہو۔

۳۷۔ سٹڈ کیٹ اور بورڈ آف گورنرز سے اپیل کرنا۔ کسی افسر (ماسوائے وائس چانسلر)، یا استاد یا ادارے کے کسی دیگر ملازم کو سزا دینے یا اس کی ملازمت کی مقررہ شرائط یا ضوابط میں رد و بدل کرنے یا اس کی تشریح کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہو، اور یہ حکم وائس چانسلر کے علاوہ کسی افسر یا استاد کی طرف سے جاری کیا گیا ہو، تو اسے اس کے خلاف سینیڈ کیٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہو گا اور مگر جہاں حکم وائس چانسلر کی جانب سے دیا گیا ہو وہاں اسے بورڈ آف گورنرز میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

۳۸۔ ادارے کی ملازمت۔ (۱) ادارے کی جانب سے مقرر کردہ ملازمت کی شرائط و ضوابط کے مطابق، ادارے کی جانب سے بھرتی کردہ تمام افراد ادارے میں ملازم ہوں گے۔

(۲) ایک افسر، استاد، یا ادارے کا دیگر ملازم اس عمر یا مدت ملازمت پر ریٹائر ہو گا جیسا کہ مقرر کیا جائے۔

۳۹۔ فوائد و انشورنس۔ (۱) ادارے اپنے افسران، اساتذہ و دیگر ملازمین کی بہتری کے لئے جیسا کہ مقرر کیا جائے، ملازمت کے بعد کے فوائد کے ساتھ ساتھ ملازمت میں رہتے ہوئے صحت اور لائف انشورنس کی فراہمی کے لئے اسکیمیں تشکیل دے گا۔

۴۰۔ اتھارٹی کے ارکان کی مدت ملازمت کا آغاز۔ (۱) اس ایکٹ کے تحت جب کسی نو تشکیل شدہ اتھارٹی کا کوئی رکن منتخب، مقرر یا نامزد کیا جاتا ہے، تو اس کے عہدے کی معیاد اس تاریخ سے شروع ہوگی جو مقرر کی جائے۔

(۲) کسی رکن کی جانب سے کوئی دوسری ذمہ داری قبول کرنے یا ایسی کسی وجہ سے ادارے سے مدت جو کہ چھ ماہ سے کم نہ ہو تک غیر حاضر رہنے کی صورت میں، یہ خیال کیا جائے گا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنی نشست خالی کر دی ہے۔

۴۱۔ اتھارٹیز میں ہنگامی اسامیوں کو پُر کرنا۔ کسی اتھارٹی کے درمیان کسی ہنگامی اسامی کو، جتنی جلدی ممکن ہو، اسی طریقے سے اور اس شخص یا اتھارٹی کے ذریعے پُر کیا جائے گا جس نے اس رکن کو مقرر کیا تھا جس کی جگہ خالی ہوئی ہے اور اس اسامی پر مقرر کردہ شخص بقایا مدت کے لئے ایسی اتھارٹی کا رکن ہو گا جس رکن کی جگہ وہ پُر کرتا ہے۔

۴۲۔ اتھارٹیز کی تشکیل میں خامیاں۔ جہاں کسی خاص دفتر کے ختم ہونے یا انسٹیٹیوٹ سے باہر کسی ادارے، انسٹیٹیوشن یا دیگر ہیئت کو تحلیل کئے جانے یا اس کے غیر فعال ہونے یا کسی دیگر ایسی وجہ سے ایکٹ ہذا، قوانین موضوعہ یا ضوابط کے تحت

تشکیل کردہ کسی اتھارٹی کی تشکیل میں کوئی خامی ہو، تو ایسی خامی کو بورڈ آف گورنرز کی ہدایات کی روشنی میں وضع کردہ طریق کار کے مطابق دور کیا جائے گا۔

۴۳۔ خالی اسامیوں کی بنیاد پر اتھارٹیز کی کارروائی منسوخ نہیں ہوگی۔ کسی اتھارٹی کا کوئی اقدام، قرارداد یا فیصلہ یہ اقدام اٹھانے والی، منظور کرنے والی یا فیصلہ کرنے والی کسی بھی اتھارٹی میں اسامی خالی ہونے، قابلیت کے درکار ہونے یا انتخاب کے کالعدم قرار دیئے جانے، اتھارٹی کے کسی حاضر یا غیر حاضر حقیقی رکن کے تقریر یا زندگی کی بنیاد پر منسوخ نہیں ہوگا۔

۴۴۔ ابتدائی قوانین موضوعہ اور ضوابط۔ باوجود اس امر کے کہ ایک ہذا میں شامل کوئی چیز اس کے منافی ہو، صدر پاکستان ابتدائی قوانین موضوعہ اور ضوابط کا نفاذ کریں گے جو کہ دفعہ ۳۰ اور ۳۱ کے تحت وضع کئے گئے قوانین موضوعہ اور ضوابط متصور ہوں گے اور یہ تب تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کہ انہیں تبدیل نہیں کر دیا جاتا یا اس وقت تک جب تک کہ ایک ہذا کی تصریحات کی روشنی میں نئے قوانین موضوعہ اور ضوابط کو وضع نہیں کر لیا جاتا۔

۴۵۔ ازالہ مشکلات۔ (۱) اگر ایک ہذا کی کسی تصریح کی تشریح کا سوال اٹھتا ہے تو اسے چانسلر اور کمیشن کے سامنے رکھا جائے گا جن کا اس پر فیصلہ حتمی ہوگا۔

(۲) اگر ایک ہذا کو بروئے کار لانے میں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو چانسلر بورڈ آف گورنرز کی آراء لینے کے بعد ایسا حکم جاری کر سکتا ہے جو کہ ایک ہذا کی تصریحات سے عدم مطابقت نہ رکھتا ہو جیسا کہ اس کے خیال میں مشکل کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہو۔

(۳) جہاں کہیں ایک ہذا کسی کام کے انجام دیئے جانے کی صراحت کرے لیکن اس امر کی صراحت یا کافی صراحت نہ کی گئی ہو کہ کون سی اتھارٹی کس وقت یا کسی طریق کار سے اسے انجام دے گی، تو ایسی اتھارٹی اس کام کو اس وقت اور اس طریق کار سے کرے گی جیسا کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کی آراء لینے کے بعد ہدایت کرے۔

۴۶۔ انسٹیٹیوٹ۔ ایک ہذا کے تحت نیک نیتی سے کئے گئے کسی کام کے لحاظ سے حکومت، انسٹیٹیوٹ، یا کسی اتھارٹی یا حکومت یا انسٹیٹیوٹ کے کسی افسر یا ملازم یا کسی بھی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

بیان اغراض ووجوه

ادارے کے قیام کی اغراض و مقاصد علوم اور ٹیکنالوجی کو پھیلانا اور تعلیم، تربیت اور تحقیق کی فراہمی ہے۔ مزید یہ کہ صنعت، تعلیم و تربیت اور ترقی کے مقصد سے سرکاری نجی شراکت داری، جدت اور تحقیق، ترقی اور صنعت سازی کو فروغ دینے کے لئے متعلقہ تنظیمیں یا ادارے تشکیل دیئے جائیں گے۔ ادارہ ہر صنف یا کسی بھی مذہب، نسل، عقیدہ، طبقہ، رنگ یا ڈومیسائل سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے لئے کھولا جائے گا جو ادارے کی جانب سے مقرر کردہ قواعد و ضوابط اور معیارات کے تحت داخلہ حاصل کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ ادارے کے قیام کا مقصد حسب بالا اغراض کا حصول ہے۔

دستخط۔

ڈاکٹر نفیسہ شاہ

رکن، قومی اسمبلی